

قادیانیت کے دو چہرے

تحریر
مولانا مشتاق احمد چنیوٹی

KHATME NUBUWWAT ACADEMY LONDON

387 KATHREIN ROAD FOREST GATE

E7 8LT UNITED KINGDOM

Phone 020 8471 4434

Mobile: 0798 486 4668, 0795 808 3404

Email: khatmenubuwat@hotmail.com

Website: www.khatmenubuwat.org

آئینہ

تقریظات

عرض مؤلف

مقدمہ

پہلا باب

مرزا صاحب کے اپنے ذاتی حالات کے متعلق تضادات

پہلی فصل : نام و نسب، تعلیم، ملازمت وغیرہ

دوسری فصل : معجزات کی تعداد کے متعلق تضاد بیانی

تیسری فصل : مرزا پر الہامات کی ابتداء کب ہوئی

چوتھی فصل : آسمانی تائید، علوم لدنیہ وغیرہ

دوسرا باب:

مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں

تضاد بیانی

(۱) میر عباس علی

(۲) مولانا عبدالحق غزنوی

(۳) بابا گوردونک

(۴) ڈپٹی عبداللہ آتھم

(۵) پنڈت لکھرام

(۶) الہامات کا مصداق کیا ہے

اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔

(ضمیمہ براہین احمدیہ، جلد پنجم، صفحہ ۱۱۱)

قادیانیت کے دو چہرے

مرزا قادیانی، قادیانی سربراہان و معتقدین

کے دوسو سے زائد تضادات کا مستند مجموعہ

تحقیق و ترتیب

مولانا مشتاق احمد

پیش لفظ

سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی قدس سرہ

عرض ناشر

قادیانی فتنہ اسلام کی بنیادی اور اساسی عقیدہ ختم نبوت پر براہ راست حملہ آور ہے اور اسی سے اس کی سنگینی کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ انگریز سامراج نے اپنے حکومت کو دوام بخشنے کے لئے اس فتنہ کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اسے اپنے سایہ میں پروان چڑھایا۔ اس فتنہ کا ظاہری لبادہ تو مذہبی ہے اور عزائم اور ریشہ دوانیوں کا تار پود مکمل طور پر سیاسی ہیں چونکہ اپنے عزائم اور سازشوں کو مذہبی رنگ میں پیش کرتے ہیں تو اس کے مذہبی خدو خال، واردات اور طریقہ واردات سے آشنائی از حد ضروری ہے۔ یہ عموماً ضعیف اور موضوع روایات میں قطع و برید کر کے عوام الناس میں پیش کر کے حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ختم نبوت و اجرائے نبوت جیسے موضوعات پر عوام کو دھوکہ و فریب سے دوچار کرتے ہیں اور بانی فرقہ قادیانی مرزا غلام احمد کے سیرت و کردار پر گفتگو سے ہمیشہ گریزاں رہتے ہیں۔ مرزا کی سیرت و کردار پر گفتگو قادیانیوں کے لئے پیغام اجل رہا ہے۔ کیونکہ مرزا کی زندگی دنیا کی ہر قسم کی بے ضابطگیوں، بیہودگیوں، معصیتوں، برائیوں اور گناہوں کا مجسم ہے۔ جو انہی کے لٹریچر سے بآسانی دستیاب ہے۔ اس لئے قادیانیوں سے گفتگو کے لئے یا اس کے خشت اول کی ناپائیداری کو سمجھنے اور جانچنے کے لئے مرزا کے افعال و کردار سے جانکاری ضروری ہے۔ مرزا کی شخصیت سے آگاہی کے لئے اس کی دعاوی، معجزات، پیشگوئیاں، جھوٹ، انداز تحریر و تکلم، انبیاء، صحابہ کرام اور محدثین و اولیاء وغیرہ کے متعلق نظریات سے بہت کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اسی سلسلہ میں مرزا قادیان کی تضاد بیانی بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اگر اسے ہی لوگ سمجھ لیں تو اس مذہب کا سارا نشیب و فراز آشکارا ہو جاتا ہے۔ مسلمان نصاب مرزا کے لٹریچر کا مطالعہ نہیں کرتے ورنہ وہ چند صفحات کے مطالعہ سے اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ

مرزا کے زبان و کلام اور تحریر و بیان میں کس حد تک دروغ گوئی اور تضاد بیانی کا شاہکار خزانہ موجود ہے۔

برادر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مشتاق احمد زید نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور مرزا کی کذب و افتراء اور تضادات کو طشت از بام کیا ہے۔ ایک عام آدمی بھی اگر اس کے مطالعہ کرے تو بڑے سے بڑے قادیانی کو لا جواب اور مبہوت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مولانا کی اس کاوش جمیلہ کو قبولیت سے ہمکنار فرما کر دارین میں انعام کا باعث بنائے۔ آمین۔

عبدالرحمن یعقوب باوا
مدیر ختم نبوت اکیڈمی لندن

تقریظ

سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی قدس سرہ
رئیس ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد

مرزا غلام احمد قادیانی آنجہانی ان تیس کذابوں میں سے ایک ہے جن کی حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشگوئی خبر دی تھی کہ میرے بعد میری امت میں تیس کذاب و دجال پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کریگا۔ لیکن یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں میرے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جہاں آپ نے بڑی صراحت و وضاحت سے اپنے بعد کسی کے نبی ہونے کی نفی فرمائی اتنی ہی وضاحت و صراحت سے بار بار حلفیہ طور پر بیان فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں وہ قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے ذریعے دین اسلام پھر اس دنیا میں پھیل جائیگا۔ ان کی دوبارہ تشریف آوری سے آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ آپ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے انبیاء میں سے اگر کوئی نبی دوبارہ اس دنیا میں واپس آ جائے تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ انبیاء سابقین سارے بھی تشریف لے آئیں تو وہ بھی حضور کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ اس سے آپ کا آخری نبی ہونا متاثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ پیدائش کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہیں اور زمانہ کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں دیگر تمام انبیاء علیہم السلام بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سب آپ سے پہلے پیدا ہوئے اور

پہلے تشریف لے آئے اب اگر ان انبیاء گزشتہ میں سے کوئی نبی دس ہزار دفعہ بھی بار بار آئے تو اس سے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت متاثر نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا آخر نمبر وہی رہتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا البتہ آپ کے بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے خواہ ظلی بروزی نبوت ہی کیوں نہ ہو تو اس سے آپ کی نبوت خاتمیت ٹوٹ جاتی ہے۔ قادیانی دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں ایک ایسا شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا ہو اس کے دعویٰ نبوت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں وہ اگر دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو اسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے منافی قرار دیتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی الٹی منطق ہے جس سے وہ سادہ لوح عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراحت و وضاحت اور تاکید سے اپنی خاتمیت کا اعلان مختلف پیراؤں میں کیا اسی صراحت و تاکید سے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے پیدا ہونے کی خبر دی ہے۔ آپ کی اس پیشگوئی کے مطابق اس امت میں کئی جھوٹے نبی اور کئی ایک جھوٹے مسیح پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق کر دی۔ کچھلی صدی ہجری چودھویں کی ابتداء میں دشمن اسلام انگریز کی گہری سازش سے ہندوستان مشرقی پنجاب کے ضلع گورداسپور کے ایک قصبہ قادیان کے رہنے والے انگریز کے ایک فرمانبردار خاندان کا چشم و چراغ مرزا غلام احمد قادیانی، مجدد، مہدی موعود، مسیح موعود، نبی، رسول بلکہ خاتم الانبیاء ہونے کے مختلف دعاوی مختلف اوقات میں تدریجاً کرتا رہا حتیٰ کہ پھر نبوت و رسالت سے بھی ترقی کرتے ہوئے خدائی تک کے دعوے کر ڈالے۔ جہاد کا وہ عظیم فریضہ جس کے بارے حضور رختی ﷺ مرتبت نے فرمایا تھا کہ جہاد قیامت تک جہاری رہے گا اور جو الحمد للہ آپ کے ارشاد کے مطابق افغانستان، بوسنیا، کشمیر وغیرہ کئی ایک ممالک میں

جاری ہے مرزا قادیانی نے انگریز حکومت کی خوشنودی اور ان کی حکومت کے استحکام کی خاطر اس جہاد کے فریضہ کو حرام قرار دیا۔ جہاد کرنے والے مجاہدین کو نازیبا اور بدترین گالیوں سے کوسا اور حکومت برطانیہ کی اطاعت کو مسلمانوں کے لئے فرض قرار دیا اور حرمت جہاد اور حکومت برطانیہ کی اطاعت کے سبق پر اس قدر کتابیں لکھیں کہ بقول اس کے ان سے پچاس الماریاں بھر سکتی ہیں۔ مرزا قادیانی کے کذاب و دجال ہونے کے بیشمار دلائل اور ثبوت قرآن و حدیث اور اس کی اپنی تصنیفات و تحریرات بھی موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کی سیرت و کردار اور کذاب و افتراء پر علماء کرام کی متعدد تصنیفات موجود ہیں جن کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے بیشمار دلائل ہیں جن میں سے ایک دلیل اس کے تناقض اقوال ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود اعتراف کیا ہے کہ جس آدمی کے کلام میں تضاد اور تناقض ہو یا تو وہ پاگل اور مجنون ہوتا ہے یا پھر وہ جھوٹا منافق ہوتا ہے مرزا قادیانی کی پوری زندگی مجموعہ تضاد ہے اور بقول اپنے وہ ”مجنون مرکب“ ہے چونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے عقائد و نظریات بدلتا رہا۔ اور تدبیراً مختلف دعاوی کی منازل طے کرتا رہا اس لئے اس کی تحریرات مجموعہ تضاد بن گئیں۔

اس لئے اس کی کتب و تحریرات میں ایک طرف تو ختم نبوت کا اقرار ہوگا مدعی نبوت کو جہنمی اور کافر قرار دیگا۔ دوسری طرف ختم نبوت کا انکار کرتا اور خود دعویٰ نبوت کرتا دکھائی دیگا۔ کہیں حیات عیسیٰ کا اقرار اور ان کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہا ہوگا اور کہیں اس کا انکار کرتے ہوئے ان کی وفات کو قرآن کریم کی تمس آیات سے ثابت کر رہا ہوگا۔ بلکہ ان کی حیات کو شرک عظیم قرار دے رہا ہوگا جبکہ ۵۲ سال کی عمر تک نہ صرف حیات مسیح کا اقرار کرتا رہا بلکہ ان کی دوبارہ آمد کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا رہا، کہیں یہ اقرار نظر آئیگا کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں دنیا میں تشریف لائیں گے تو بعد از وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں دفن ہوں گے۔ کہیں انہیں فوت شدہ

ثابت کر کے ان کی قبریں تلاش کر رہا ہو پھر کبھی کبھی تو آپ کی قبر فلسطین میں بتائے گا کبھی گلیل میں کبھی یروشلم میں اور آخر میں کشمیر میں آپ کی قبر ثابت کر رہا ہوگا۔ اسی طرح کہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا ثبوت دے گا اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف نجار کا بیٹا ثابت کر رہا ہوگا بلکہ ان کے اور بہن بھائی بھی بتا رہا ہوگا۔ کہیں حضرت مریم صدیقہ کی پاکدامنی اور پاکیزگی کا اقرار و اعتراف کرے گا تو کہیں یہودیوں سے بھی بڑھ کر ان پر بہتان لگاتا ہوا نظر آئیگا۔ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اقرار کر رہا ہوگا کہیں ان معجزات کو شعبہ بازی قرار دیکر ان کا صاف صاف انکار کر دیگا۔ کہیں مثیل مسیح کا دعویٰ کر رہا ہوگا اور پھر اسی کتاب میں چند صفحات بعد خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر کے اس پر دلائل دے رہا ہوگا کہیں مسیح اور مہدی کو دو علیحدہ شخصیتیں قرار دے رہا ہو گا اور کہیں مسیح اور مہدی دونوں کو ایک شخص قرار دے دیگا۔ کہیں فارسی الاصل اور مغل زادہ بن رہا ہوگا۔ کہیں چینی بن رہا ہوگا کہیں فاطمی بن رہا ہوگا پھر کہیں مرد بن رہا ہوگا کہیں عورت بن رہا ہوگا۔ کہیں خدا کا بیٹا بنے گا اور کہیں خدا کا باپ بن جائیگا اور کہیں خود خدا بن جائیگا کہیں شرک کے خلاف لکھ رہا ہوگا اور کہیں خدائی صفات میں شرکت کا دعویٰ کر رہا ہوگا۔

پھر کہیں معراج جسمانی کا اقرار ہوگا اور کہیں انکار کرتے ہوئے اسے ایک کشف قرار دے دیگا۔ دجال سے مراد کہیں تو عیسائی پادری ہوں گے اور کہیں دجال سے مراد انگریز قوم ہوگی اور دجال کے گدھے سے مراد ان کی ریل گاڑی ہوگی اور کہیں خود مرزا دجال کے گدھے یعنی ریل پر سواری کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور کہیں انگریز دجال کی تعریفیں اور قصیدے پڑھتا نظر آئے گا کہیں تہذیب و شرافت کا پیکر بتکر یہ تعلیم دے گا کہ گالی دینا اور بدزبانی کرنا طریق شرافت نہیں بلکہ گالیاں سن کر دعا دو۔ پا کے دکھ آرام دو۔ بلکہ اپنے متعلق یہ دعویٰ کریگا کہ میں نے آج تک کسی کو جوابی طور پر بھی گالی نہیں دی دوسری طرف عدالت میں خود اقرار کر رہا ہوگا کہ میرے سنت الفاظ گالیاں جوابی طور پر ہیں اور نئی نئی گالیوں کے وہ ریکارڈ

قائم کئے ہیں کہ اس کے ریکارڈ کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا کہیں جھوٹ بولنے والے کو مرتد اور گولکھانے والا قرار دیا اور کہیں خدا، انبیاء اولیا اور آسمانی کتب وغیرہ پر بڑی جرأت اور بے حیائی کے ساتھ بہتان اور جھوٹ بکتا ہوا نظر آئیگا کہیں اس کا یہ اقرار و اعتراف نظر آئیگا کہ انبیاء علیہم السلام کوئی استاد نہیں ہوتا وہ تمام دینی معلومات براہ راست خدا تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں۔ کہیں اس کے برعکس یہ لکھ رہا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے (نعوذ باللہ) تمام تورات ایک یہودی استاد سے سبقاً سبقاً پڑھی تھی۔ اپنے متعلق کئی جگہ خود یہ اقرار کریگا کہ میں نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ مولوی فضل احمد سے صرف ونحو کی کتابیں اور مولوی فضل الہی سے چند فارسی کتابیں اور قرآن کریم پڑھا اور مولوی گل علی شاہ سے منطق اور فلسفہ پڑھا طب کی کتابیں اپنے والد سے پڑھیں۔ سیالکوٹ میں انگلش ڈاکٹر امیر شاہ سے پڑھتا رہا۔ دوسری طرف یہ دعویٰ کرتا نظر آئیگا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا اور جو حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی حال میرا ہے جیسا آپ کا علم لدنی تھا ویسے میرا علم بھی لدنی ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہو دابۃ الارض سے مراد ایک جگہ لکھا ہے۔ علماء ربانی دوسرے مقام پر لکھا اس سے مراد علماء سوء اور منافق ہیں کہیں تیسری جگہ لکھا کہ دابۃ سے مراد طاعون کا چوہا ہے۔ کہیں تو عاجزی اور فروتنی کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں

ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

اور کہیں یہ تعالیٰ کریگا کہ

ابن مریم کا ذکر چھوڑو

اس سے بہتر غلام احمد ہے

کر بلا است سیر ہر آنم
صد حسین است در گریبانم
انبیاء گرچہ بودہ اند بے
من بعرفاں نہ مکترم ز کسے
کہیں سروردو جہاں سے برابر کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ

من فرق بینی و بین المصطفیٰ

فما عرفنی و مارای

بلکہ پھر کہیں خاتم الانبیاء کا منصب ختم نبوت سنبھالتے ہوئے یہ دعویٰ کرے گا کہ

روضہ آدم جو تھا نامکمل اب تک

میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ

برگ و بار

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساری مخلوق سے اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دے گا اور

یہ دعویٰ کرتا نظر آئے گا۔

اعطانی مالہ یعط احد من

العالمین

آثرک اللہ علی کل شئی

آسمان پر سے بہت سے تخت اترے مگر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا اور کہیں

اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام ثابت کر رہا ہوگا۔

غرضیکہ مرزا کی تحریرات سے آپ کو ہر طب و یا بس چیز ملے گی جس چیز کا اقرار

ملے گا اس کا انکار بھی ملے گا اور جس چیز کا انکار ملے گا اس کا اقرار بھی ملے گا۔ اسی لئے

ہمارے استاذ مکرّم حضرت مولانا محمد حیات صاحب فاتح قادیان فرمایا کرتے تھے کہ

”مرزا کی الماری..... پٹاری ہے مداری کی“

جس طرح مداری کی پٹاری سے ہر چیز برآمد ہوتی ہے اسی طرح مرزا کی الماری سے بھی ہر چیز نکل آتی ہے۔

مرزا قادیانی کے انہیں تضادات و اختلافات کا نتیجہ ہے کہ اس کے پیروکار کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کئی تو صرف اسے چودھویں صدی کا مجدد مانتے ہیں کئی اسے مسیح موعود اور مہدی مانتے ہیں کئی اسے ظلی بروزی نبی قرار دیتے ہیں کئی اسے صاحب شریعت نبی مانتے ہیں کئی اسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل قرار دیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو اپنے مطلب کی عبارت اس کی تحریرات میں سے مل جاتی ہے۔ مرزا قادیانی کے انہی اختلافات و تضادات کو ہمارے جامعہ عربیہ کے ایک فاضل نوجوان استاد مولانا مشتاق احمد صاحب نے مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں کی تحریرات سے بڑی محنت اور عرق ریزی سے جمع کیا ہے اور جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بقول مرزا قادیانی جس شخص کے کلام میں تضاد ہو وہ یا تو پاگل، مجنوب، الجواس ہوتا ہے یا پھر جھوٹا منافق ہوتا ہے اب یہ رسالہ قارئین کے ہاتھوں میں ہے فیصلہ قارئین پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ ان عبارات کو پڑھ کر خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ شخص مہدی، مسیح موعود نبی اور نعوذ باللہ محمد ثانی ثابت ہوتا ہے یا پرلے درجے کا احمق، مجنون، پاگل، جھوٹا اور منافق ثابت ہوتا ہے۔

انشاء اللہ یہ رسالہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں مرزائیت کے قلعے کو مسمار کرنے والا میزائل اور ایٹم بم ثابت ہوگا اور اگر قادیانیوں نے بھی بنظر انصاف اور تحقیق حق کی غرض سے اس کا مطالعہ کیا تو ان کے لئے بھی موجب ہدایت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی اس محنت اور اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس میدان میں مزید کام اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز

منظور احمد چنیوٹی عفا اللہ

ادارہ دعوت و ارشاد چنیوٹ

تقریظ

حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب مدظلہ

از واسو منڈی بہاؤ الدین

ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد

رسالہ تضادات مرزا قادیانی جو حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب نے مرتب کیا ہے اس کا میں نے ابتداء سے انتہاء تک حرف بہ حرف مطالعہ کیا ہے اور اسے بہت مفید پایا ہے۔ اگر قادیانی حضرات خالی الذہن ہو کر اس رسالہ کا مطالعہ کریں گے تو انشاء اللہ ان کے لئے راہ راست پر آنا آسان ہوگا جیسا کہ حضرت استاذ العلماء مولانا لال حسین صاحب اختر مرحوم مرزا قادیانی کے تضادات کی بنا پر ہی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کی محنت کو قبول فرمائیں اور یہ رسالہ قارئین کے لئے مفید ثابت ہو۔

والسلام

محمد ابراہیم

عرض مؤلف

قرآن مجید ابدی صحیفہ ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب اپنے اندر معجزانہ شان رکھتی ہے۔ لاکھوں فصیح و بلیغ اس دنیا میں آئے جنہیں اپنے علم و دانش اور فصاحت و بلاغت پر بجا طور پر ناز تھا لیکن اعجاز قرآنی کا وہ بھی مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور جس نے بھی قرآن مجید کے مقابلہ میں عبارتیں بنانے کی سی نامشکور کی تو ایسی مضحکہ خیز کہ اس کی نقل بھی دشوار ہے۔

اعجاز قرآنی کے دلائل میں سے ایک دلیل قرآن مجید کا ہر قسم کے تضاد سے پاک ہونا ہے جیسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ”وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ (النساء ۸۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شمار جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے خود ساختہ جملوں کو الہام اور وحی اور شعبدہ بازیوں کو معجزات قرار دیا۔ ان دجالوں میں سے ایک دجال و کذاب مرزا غلام احمد قادیانی تھا جس نے دعویٰ نبوت کرتے ہوئے اپنی وحی کو قرآن مجید کے ہم مرتبہ اور ہم قسم کے تضادات سے مبرا قرار دیا (حقیقۃ الوحی ص ۱۰۵، روحانی خزائن جلد ۲۲ ص ۱۰۸) مرزا نے ازراہ تعلیٰ یہاں تک کہہ دیا کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے وما یسطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی (تذکرہ ۳۸۸ طبع دوم) یعنی میں اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں وحی الہی سے کہتا ہوں۔ یوں مرزا کے زعم کے مطابق اس کے سارے اقوال اور تحریریں وحی کا درجہ رکھتی ہیں۔

مرزا کے ان دعوؤں حقیقت معلوم کرنا، ان کا تجزیہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے اس تجزیہ سے کیا تلخ حقائق سامنے آئے، مرزا کی تضاد بیانی کی وجوہ کیا تھیں؟ یہ سب مباحث انشاء اللہ العزیز قارئین کرام اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

جس طرح سچے نبی وحی، اس کے فرمودات اور قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا اسی طرح ان کے خلفاء بھی اقوال کے تضادات اور قول و فعل کے تضادات سے پاک ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد تجتبیصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدینؓ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ مقدس ہستیاں تو قرون اولیٰ میں تھیں۔ ہم آج کے اس گئے گزرے معاشرہ میں بھی ایسی بیسیوں شخصیات دیکھتے ہیں جو کہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور ان کی تحریریں ان کے اقوال و اعمال و افعال ہر قسم کے تضادات سے پاک ہیں۔

دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں

مرزا قادیانی، نبوت تو بہت دور کی بات ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اگر ایک متقی و پرہیزگار شخص بھی ہوتا تو اس کی تحریروں میں تضادات کا یہ عالم نہ ہوتا جو کہ ہے۔ قادیانیت کفر و شرک، مکروفریب، کذاب و افتراء، حرص و آرزو کا ایک بدترین مجموعہ ہے تضادات اس کے لئے شررگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تضادات کو قادیانیت سے نکال دیا جائے تو صرف الفلیلولی داستان ہی رہ جاتی ہے۔

احقر نے اس کتاب میں مرزا قادیانی کے علاوہ مرزا بشیر الدین محمود، اور مولوی محمد علی لاہوری کے تضادات، مرزا قادیانی سے اس کے بیٹوں اور مریدوں کے اختلافات بھی تحریر کر دیئے ہیں، جو کہ خاصی محنت سے لکھے گئے ہیں جس کا اندازہ دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے مرزا قادیانی کے بعد اس کے مشن اور دامہائے تزویر کو مرزا محمود نے ترقی دی۔ یہ بہت شاطر اور عیار انسان تھا۔ اس نے اپنے والد کی کتابوں میں وہ تحریفات کیں کہ یہود و نصاریٰ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مجاہد ختم نبوت آغا شورش کشمیری لکھتے ہیں۔

”یہ تو صحیح ہے کہ جائداد کی وارث اولاد ہوتی ہے لیکن اسکا جواز آج تک قائم نہیں ہوا کہ اولاد میں سے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قلم کھینچ دے جو علم کی میراث ہو کر

قرطاس و قلم کو منتقل ہو چکے ہیں صرف دو تحریریں ساری تاریخ میں پائی جاتی ہیں ایک عیسائی علماء کی تحریف جس سے بائبل مجروح ہوئی ہے۔ دوسری مرزا بشیر الدین محمود کی تحریف کہ اپنے والد کی تحریروں کے عیب چھپانے کے لئے انہوں نے عجیب و غریب جسارتیں کی ہیں (مرزا بیکل ص ۹۳)

مرزا محمود کی ان عجیب و حرکات کا جائزہ دو مستقل فصلیں قائم کر کے لیا گیا ہے۔ لاہوری گروپ کا بانی مولوی محمد علی لاہوری مرزا غلام احمد قادیانی کا خاص مرید تھا۔ حکیم نور الدین کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بننے کا متمنی تھا لیکن مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی والدہ نے مولوی محمد علی کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ خلیفہ نہ بن سکا جس پر احتجاجاً اس نے مرزا محمود کی بیعت نہ کی اور ۱۹۱۴ء میں اس نے لاہور آکر علیحدہ دکان بنائی۔ انجمن اشاعت اسلام احمدیہ کے نام سے الگ تنظیم بنائی اور اس کا پہلا امیر منتخب ہوا۔ جب مولوی محمد علی لاہوری نے جدا گروہ بنایا تو دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب مجدد تھے نبی نہ تھے حالانکہ ۱۹۱۴ء سے پہلے اس کی بے شمار تحریرات یہ بتاتی ہے کہ وہ مرزا کو نبی ماننے میں مرزا محمود کا ہموا تھا۔

ہم نے ایک مستقل باب قائم کر کے مولوی محمد علی لاہور کے تضادات کا جائزہ لیا ہے اور اس کے اقوال نقل کئے ہیں کہ مرزا نبی ہے پھر اس تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے اس کے دس اقوال ایسے پیش کئے ہیں جن میں وہ مرزا کی نبوت سے انکاری ہے یوں یہ کتاب قادیانی اور لاہوری دونوں گروپوں کے لئے آئینہ بن گئی ہے۔ فالحمد للہ علی ذلک آخر میں اللہ جل شانہ سے دوست بدعا ہوں کہ وہ احقر کی اس حقیر کاوش کو قبول فرمائیں ریاکاری سے بچائیں اس کتاب کو بھولے بھٹکے قادیانیوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنائیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ مشتاق احمد

استاد درجہ تخصص فی رد القادیانیہ ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ۔

(25/ اپریل 2000ء 19 محرم الحرام 1421ھ)

مقدمہ

شریعت اسلامیہ اپنے ہر ماننے والے سے مطالبہ کرتی ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادات و معاملات میں اپنی نیت خالص رکھے ریاکاری کو قریب بھی نہ پھٹکنے دے وہاں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یکساں برتاؤ کرے ایسا نہ ہو کہ دل کینہ و نفرت سے بھرا ہوا ہو اور زبان سے محبت جتلائی جا رہی ہو ایسے شخص کو جس کے ظاہر و باطن اور قول و فعل میں تضاد ہو منافق کہا گیا ہے اور قرآن و حدیث میں منافقین کے بارے میں سخت وعیدیں مذکور ہیں مثلاً مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں مذکور ہے تجدون شر الناس يوم القيامة ذالو جہین الذی یأتی ہٹو لاء بوجہ و ہٹو لاء بوجہ متفق علیہ (ص ۴۱۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن کا تضاد کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کی شخصیت گھر کا ماحول اور معاشرہ بہت سی خرابیوں کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے انسانی کردار پر یہ ایک انتہائی بدنام داغ ہے جو جملہ اوصاف کو دیمک کی طرح چٹ کر جاتا ہے اس دورِ خرابہ طرز عمل کو منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تضاد بیانی کے ڈانڈے مکر و فریب حرص و آزمادہ پرستی کذب و افتراء اور مانجیو لیا سے جا ملتے ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی بھی گزشتہ مدعیان نبوت کی طرح خواہشات نفسانی کا غلام مکمل دنیا دار تصنع و بناوٹ کا دلدادہ، تاویلات کا بے تاج بادشاہ، مذاق و مانجیو لیا کا اسیر، علم و عمل خلوص و عمل سے تہی دامن، عقل و دانشمندی کا دشمن، حکمت و دانائی سے عاری، عورتوں کا رسیا، ٹانگ دان سے تازگی حاصل کرنے والا مجنون، مرکب قسم کے دعوے کرنے والا شخص تھا۔ ایسے اخلاق و کردار کا حامل تضادات سے کالی ہو گا یہ گمان کرنا ایسا ہی ہے جیسے یہ سمجھنا کہ حق احق انسان، عقل و دانش کی دنیا میں محو پذیر ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تضاد بیانی پر ہم اپنا تجزیہ لکھنے کی بجائے محدث جلیل حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نو اللہ مرقد

کا تجزیہ نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مولانا کا ندھلوی تحریر فرماتے ہیں۔

(۱) دنیا میں بہت سے گمراہ اور جھوٹے مدعی گزرے ہیں مگر اس مسئلہ ثانی مرزا احمد قادیانی جیسا مدعی کاذب اور مفتری اب تک کوئی نہیں گزرا۔ جو مدعی بھی کھڑا ہو وہ ایک ہی دعویٰ کو لے کر کھڑا ہو مگر مرزائے قادیان کے دعوؤں کی کوئی حد اور شمار نہیں۔ اس شخص نے اس کثرت کے ساتھ قسم قسم کے مختلف اور متناقض دعوے کئے جن کا احاطہ اس ناچیز کو محال نظر آتا ہے اور دعوؤں کی کثرت اور تنوع ہی کی وجہ سے مرزائی امت کے فضلاء کو مرزائے قادیان کے اصل دعویٰ کے تعین میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ مرزا صاحب نبوت کے مدعی تھے کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کے مدعی تھے کوئی کہتا ہے کہ مجددِ مائیا امامِ دوراں یا مہدی زماں ہونے کے مدعی تھے کوئی کہتا ہے کہ لغوی یا مجازی یا بروزی نبی ہونے کے مدعی تھے کوئی کہتا ہے کہ مرزا صاحب شریعت اور مستقل نبی تھے اور کوئی کہتا ہے کہ وہ غیر تشریفی نبی تھے۔

اس قسم کا دعویٰ تو مرزا صاحب نے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اور یہود اور نصاریٰ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے موسیٰ اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور شیعوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے یہ کہہ دی کہ امام حسینؑ سے مشابہت رکھتا ہوں اور ہندوؤں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے کرشن ہونے کا اور آریوں کا باشاہ ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ ہر طرف سے شکار مل سکے اور باوجود ان مختلف اور متناقض دعوؤں کے بظاہر مدعی اسلام ہی کے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں اور آریوں میں سے تو کسی نے آپ کو اپنا گرو اور پیشوا نہ مانا۔ البتہ ناواقف عوام اور بعض تعلیم یافتہ حضرات ان کے فریب میں آگئے اور انہیں کلمہ گو خیال کر کے یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے چونکہ تعلیم یافتہ طبقہ اکثر دین اسلام اور اس کے اصول سے بے خبر ہوتا ہے اس لئے وہ مدعی کاذب کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکا اور یہ نہ سمجھ سکا کہ نام اسلام کا ہے اور معنی کفر کے ہیں ظاہر میں اسلام کا نام لیا مگر درپردہ اصول اسلام میں وہ عجیب و غریب تحریف کی کہ جس سے اصل اسلام کی حقیقت ہی

بدل گئی اور ایسی تحریف کی کہ یہود و نصاریٰ سے تحریک میں سبقت لے گیا اور شریعت کے الفاظ کو بظاہر برقرار رکھنا اور اس کی حقیقت جو بدل دینا یہی الحاد اور زندقہ ہے۔

(دعاوی مرزا ص ۱-۲، مندرجہ احتساب قادیانیت، جلد دوم صفحہ ۳۵۶-۳۵۷)

(۲) قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ قادیانی مذہب اس مثل کا مصداق ہے کہ میرے تھیلے میں سب کچھ ہے ایمان بھی ہے اور کفر بھی ختم نبوت کا اقرار بھی اور اقرار بھی دعوت نبوت و رسالت بھی ہے اور جو دعوت نبوت کرے اس کی تکفیر بھی ہے حضرت مسیح بن مریم کے رفع الی السماء اور نزول کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی وغیرہ وغیرہ غرض یہ کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی متنبی اور ملحد اور زندیق کی کتابوں میں نہیں ملتے اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کا مرزا صاحب کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار اور یہ سب کچھ دیدہ و دانستہ ہے اور عرض یہ ہے کہ بات گول مول رہے اور حقیقت متعین نہ ہو حسب موقعہ اور حسب ضرورت جس قسم کی عبارت چاہیں لوگوں کو دکھلا سکیں اور زنداقہ کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے کہ بات صاف نہیں کہتے یہی طریقہ مرزا اور مرزائیوں کا ہے کہ جب مرزا صاحب کا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قدیم عبارتیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عقیدے تو وہی ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو مرزا صاحب کے فضائل اور کمالات اور وحی الہامات کے دعوے پیش کر دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب مستقل بنی اور رسول نہ تھے وہ تو ظلی اور بروزی نبی تھے۔

(اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف، ص ۱۷)

تضادات کی وجوہات:

مرزا غلام احمد قادیانی اتنے تضادات کا شکار کیوں ہوا؟ بندہ نے جہاں تک تجزیہ کیا ہے حسب ذیل وجوہ سمجھ آتی ہیں۔

(۱) مثل مشہور ہے دروغ گور حافظہ بنا شد مرزا صاحب بڑی مہارت سے جھوٹ بولنے کے عادی مجرم تھے جسکی نحوست ان پر یہ پڑی کہ نسیان کے مریض بن گئے اور ان کو یاد نہ رہتا تھا کہ میں نے پہلا کیا لکھا اور اب کیا لکھ رہا ہوں؟ اس ضمن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہی صفحہ پر متضاد باتیں لکھ جاتے تھے اور انہیں کوئی احساس تک نہ ہوتا تھا۔

(۲) مرزا صاحب نے مختلف اوقات میں مختلف امور پر اپنا موقف تبدیل کیا خصوصاً ۱۹۰۱ء اس سلسلہ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

جلال الدین شمس قادیانی روحانی خزائن جلد ۱۸ کے دیباچہ میں لکھتا ہے ایک غلطی کا ازالہ یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالہ میں اصولی طور پر اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا ہے جو بظاہر آپ کی ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تحریروں اور ۱۹۰۱ء کے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے ۱۹۰۱ء سے کی تالیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اور ۱۹۰۱ء سے بعد کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے (دیباچہ ص ۶)

”قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے متعدد مواقع پر اپنے موقف وحی الہی کی بنیاد پر تبدیل کئے۔ اس سلسلہ میں ایک انتہائی دلچسپ تحریر قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔“

اب میں آپ کی خاطر ایک خاص دلیل پیش کرتا ہوں اور ایک نئے راستہ سے اس مسئلہ کے حل کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر دو فریق کے مقتدر ہیں نیز ہمارے اور آپ (یعنی لاہوری گروپ۔ ناقل) کے نزدیک وہ صادق اور راست باز ہیں ان باتوں کے باوجود حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسیح ناصری زندہ ہیں پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز آسمان سے نازل نہیں ہوں گے پھر کہتے ہیں کہ

مسیح اور مہدی دو شخص ہوں گے پھر فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں مسیح اور مہدی ایک ہی شخص ہے کبھی فرماتے ہیں کہ مہدی تو بنی فاطمہ سے ہوگا پھر کہتے ہیں کہ میں ہی مہدی ہوں کہیں فرماتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ سے کیا نسبت وہ عظیم الشان نبی ہے ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں مسیح ناصری سے ہر طرح سے افضل اور ہر شان میں بڑھ کر ہوں کہیں فرماتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں صرف مجدد اور محدث ہوں ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا منکر کافر ہے۔ غیر احمدیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے بھی رہے پھر حرام بھی فرمادیں ان سے رشتے ناتے بھی کئے پھر منع بھی کر دیئے متوفیک کے معنی کیے کہ پوری نعمت دوں گا پھر کہا کہ ہزار روپیہ انعام اگر سوائے موت کے کوئی اور منع ثابت ہوں فرماتے تھے کہ ایک نبی دوسرے کا قبیح نہیں ہوتا ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی نبی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ کسی دوسرے نبی کا قبیح نہ ہو۔ ایک کتاب میں نبی کی تعریف اور کی ہے دوسرے میں اس کے کچھ مخالف کی ہے۔ کبھی کہا کہ میں تو مسیح کا صرف مثیل ہو کر آیا ہوں وہ خود بھی آئے گا پھر کہا کہ میں ہی مسیح ہوں اور کوئی نہیں آئے گا غرض حضور کی تصانیف میں دس حوالے اگر آپ ایک طرح کے دکھا سکتے ہیں تو سوہم دوسری طرح کے اور اگر چہ ہمارے نزدیک معاملہ بالکل صاف ہے کہ حضور اپنے عقائد کو بالہام الہی تبدیل فرماتے گئے مگر پھر بھی ایک ناواقف کے لئے سمجھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے جب ہم حقیقۃ الوحی کو پیش کرتے ہیں اور آپ اور ازالہ اوہام کو پھر مخالف الفاظ پر خوب بحث ہوتی ہے مجلس میں تو تو میں میں شروع ہو کر حق سمجھنے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی دراصل متقی اور عقلمند (یعنی عقل کے اندھے۔ ناقل) کے لئے وقت نہیں مگر مبتدی اور ضدی کے لئے بعض فقرات اور ضلالت کا باعث بن جاتے ہیں۔

(ڈاکٹر میر محمد اسماعیل قادیانی کا مضمون، مندرجہ ماہنامہ الفرقان ربوہ مسیح موعود مؤرخہ مئی جون

(۱۹۶۵ء)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا صاحب کس طرح وحی والہام کا نام اپنی اغراض مذمومہ کے لئے استعمال کر رہے ہیں گزشتہ چودہ سو سال میں کسی بزرگ پر الہامات اترنے کا یہ انداز نہیں رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عقائد کے ضمن میں دعویٰ کے سلسلہ میں اس طرح کی متضاد وحی کبھی نہیں اتری حتیٰ کہ گزشتہ ادوار کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بھی کسی ایک کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ مرزا صاحب کا کسی نبی ولی کے ساتھ موافقت نہ کرنا ان کے جھوٹا ہونے کا بین ثبوت ہے۔

ثانیاً یہ نکتہ قابل غور ہے کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل نے اپنی تحریر میں مرزا صاحب کے تضادات کی جو مثالیں دی ہیں اور اس میں وحی کی بنیاد پر نسخ تسلیم کیا ہے وہ سراسر غلط ہے وحی نہ ہوئی بچوں کا کھیل ہوا کیا مرزائی مرزا کو ۱۸۸۰ء کے زمانہ سے جب وہ براہین احمدیہ لکھ رہے تھے مجدد تسلیم نہیں کرتے؟ کیا ان کے حضرت صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ مجدد کو جب تک اللہ تعالیٰ نہ بلوائے وہ نہیں بولتا؟ کیا مرزا صاحب پر قادیانیوں کے بقول وما یسطق عن الہوی ان ہوا لا وحی یوحی کی وحی نازل نہیں ہوئی تھی؟ یہ سب امور قادیانیوں کے تسلیم کردہ ہیں یہ سب اپنے آپ کو اور دوسروں کو بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں کہ نسخ ہے مرزا صاحب کی تحریرات میں۔ مرزا اور اس کے مریدوں کے اعترافات کی روشنی میں یہ بات لازم آتی ہے کہ دونوں قسم کی تحریریں ان کی وحی کا نتیجہ ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس قسم کے تضادات پر مشتمل وحی صرف اور صرف شیطانی ہی ہو سکتی ہے رحمانی نہیں۔ ثالثاً یہ کہ عقائد کے باب میں نسخ ممکن ہی نہیں قرآن و حدیث سے اس ضمن میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی نسخ صرف اور صرف احکام و مسائل میں ہوتا ہے۔

(۳) ظاہر ہے کہ جھوٹے کو ایک جھوٹ چھپانے کے لئے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں مرزا صاحب بھی اسی مرض کے مریض اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے کئی جھوٹ بولنے کے عادی تھے مثلاً مسیح موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کو چھپانے کیلئے ایک ہی سانس میں کئی

غلط بیانیوں کر گئے ملاحظہ فرمائیں۔

یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے پھر اسی عبارت پر حاشیہ میں رقم طراز ہیں مسیح موعود وقت میں طاعون کا پڑنا بائبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے زکریا باب ۱۲ آیت ۱۲۔ انجیل متی باب ۲۴ آیت ۷، مکاشفات باب ۲۲ آیت ۸۔ (کشتی نوح ص ۵۷، روحانی خزائن ج ۱۹، ص ۵)

آپ بائبل اٹھائیں اول تا آخر پڑھ لیں مذکورہ عبارت کا کہیں نام و نشان تک نہ ملے گا یوں مرزا صاحب نے جو بیت کی دیوار کھڑی تھی وہ زمین بوس ہو کر رہ گئی۔

(۴) چونکہ مرزا احب مراق و پیسٹر یا جیسے دماغی امراض میں مبتلا تھے اس پر مستزاد ایفون پر مشتمل ادویات کی تیاری و استعمال ٹانک وائن سے لطف اندوزی ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا والا معاملہ تھا اس لئے کثیر و بیشتر موصوف کی یہ حالت ہوتی تھی

بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ

کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

ایسی کیفیات میں مرزا صاحب وہ باتیں لکھ جاتے تھے جو عقل و نقل دونوں کے خلاف ہوتی تھیں۔ اس کے بہت سے نظائر گزر چکے ہیں۔

چند قادیانی تاویلیں اور ان کے جوابات

اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے احمدیہ پاکٹ بک سے قادیانیوں کے عذر مع جوابات نقل کئے جاتے ہیں۔

قادیانی عذر نمبر ۱:

حضرت مرزا صاحب کے اقوال میں کوئی تناقض نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی

پہلے ایک بات اپنی طرف سے کہے مگر اس کے بعد خدا تعالیٰ اس کو بتادے کہ یہ بات غلط ہے درست اس طرح ہے تو دوسرا قول نبی کا نہیں خدا کا ہوگا لہذا تناقض نہ ہوگا تناقض کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی شخص کے اپنے دو اقوال میں ہو۔“

(محصلہ احمدیہ پاکٹ بک ص ۹۳ تا ۸۰۲)

جواب نمبر ۱:

ہمیں مرزا صاحب کا نبی ہونا ہی تسلیم نہیں ہے اور اس کے ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں مثلاً:

(۱) نبی شاعر نہیں ہوتا جبکہ مرزا صاحب شاعر تھے اور اپنی شاعری کو اپنی صداقت کی دلیل بتایا کرتے تھے۔

(۲) نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا (براہین احمدیہ ص ۱۶، روحانی خزائن جلد ۱۴) جبکہ مرزا صاحب کے متعدد استاد تھے۔ (کتاب البریہ ص ۱۴۸، روحانی خزائن ج ۱۳، ص ۱۸۰-۱۸۱)

(۳) نبی غیر محرم عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا جبکہ مرزا صاحب بھانونا می ایک ملازمہ سے ٹانگیں دبویا کرتے تھے۔ (سیرت الہدی، جلد سوم ص ۲۱۰، روایت ۷۸۰)

(۴) نبی مصنف نہیں ہوتا جبکہ مرزا صاحب ۸۴ کتابوں کے مصنف تھے۔

(۵) نبی آزادی کا علمبردار ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تھا ارسل معنا نبی اسرائیل (بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو)

جب کہ مرزا صاحب انگریزوں کے ثنا خواں اور ان کا خود کاشہ پودا تھے اور مسلمانوں کو انگریزوں کی تابع داری کی تلقین کرتے تھے (تحفہ قیصریہ وغیرہ)

جواب نمبر ۲:

نبی کی وحی کی طرح نبی کے اپنے فرمودات میں بھی تضاد نہیں ہوتا۔ احمدیہ پاکٹ بک کے قادیانی مصنف کی یہ دیدہ دلیری اور شرمناک جسارت بدیانتی اور بدزبانی ہے کہ اس نے سولہ آیات لکھ کر ان میں فرضی تضاد ثابت کیا اور کہا ہے اگر حضرت مسیح

موعود (یعنی مرزا قادیانی) کی عبارت میں تضاد ہے تو قرآن مجید کی ان آیات میں بھی تضاد ہے لیکن چونکہ درحقیقت قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں لہذا مرزا قادیانی کی عبارات میں بھی کوئی تضاد نہیں۔

چہ دلا اور است دزدے کہ بکف چراغ دارد

ہم نے اس رسالہ میں مرزا صاحب کے اپنے اقوال سبباً حوالہ تضاد ثابت کیا ہے اور ان مقامات پر مرزا صاحب نے کوئی تصریح نہیں کی کہ میرا دوسرا قول وحی الہی کی وجہ سے بدلا گیا ہے۔ لہذا قادیانی عذرنا قابل قبول ہے۔

جواب نمبر ۳:

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں معصوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کی مقدار بھی غلطی نہیں کرنے دیتا۔ (نور الحق ج ۲ ص ۲۷۲، روحانی خزائن ج ۸ ص ۲۷۲)

اس لئے قادیانی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پہلا قول ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے وہ غلطی دور کر دی؟

جواب نمبر ۴:

اگر پہلا قول مرزا صاحب نے غلط فہمی کی وجہ سے لکھا تھا اور دوسرا قول وحی پر مبنی تھا تو بتائیں کہ مرزا صاحب نے پہلے اقوال کی تردید کہاں لکھی ہے؟ تردید دکھانا قادیانیوں پر فرض ہے جو کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ تاقیامت ادا نہیں کر سکتے۔

قادیانی عذر نمبر ۲:

نبی کی وحی میں نسخ ہو سکتا ہے کہ پہلے اور حکم نازل ہوا بعد میں اور حکم آگیا مرزا صاحب کی وحی میں بھی نسخ پایا جاتا ہے۔ (ایضاً بحوالہ مذکورہ)

جواب: احمدیہ پاکٹ بک کے مصنف کی یہ جہالت ہے کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں نسخ اعتقاد اور اخبار میں نہیں ہوا کرتا بلکہ احکام میں ہوتا ہے اور مرزا صاحب کے تمام

ترتضادات، اعتقادات و نظریات اور اخبار سے تعلق رکھتے ہیں فقہی احکامات میں تضاد بیانی شاذ و نادر ہی ہے لہذا نسخ والی تاویل بھی باطل ہے۔

تنبیہ

قادیانیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر کتاب کا جواب لکھتے ہیں چاہے جواب بنتا ہو یا نہ۔ جیسے مثل مشہور ہے کہ ایک تیلی نے جاٹ کو طعنہ دیا ”جاٹ رے جاٹ تیرے سر پر کھاٹ“ اس نے کہا ”تیلی رے تیلی تیرے سر پر کولہو“۔ اس نے کہا تیرا جواب بنا نہیں جاٹ نے کہا میں نے جواب دے دیا ہے چاہئے بنے یا نہ بنے۔ قادیانیوں کا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ یہ لوگ ایسی رکیک تاویلات کرتے ہیں کہ ابلیس بھی شرمایا جائے۔ تاویلات کرنے والے قادیانی مبلغین اور ان کی تاویلات کے پھندے میں پھنسنے والے نادان دوستوں سے احقر کی گزارش ہے کہ

سحر کا ایک ہی مفہوم ہے طلوع سحر
مجھے فریب نہ دیں روشنی کی تعبیریں

تضاد بیانی کے بارے میں مرزا قادیانی کے فتاویٰ

(۱) پھر تنازع کا قائل ہونا اسی شخص کا کام ہے جو پرلے درجے کا جاہل ہو جو اپنے کلاموں میں متناقض بیانیوں کو جمع کرے اور اس پر اطلاع نہ رکھے۔

(ست بچن ص ۲۹، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۱، حاشیہ)

(۲) صاف ظاہر ہے کہ کسی سچیا اور عقل مند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا ہاں اگر کوئی پاگل ورجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔

(ست بچن ص ۳۰۱، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۱۴۲)

(۳) اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔

(ست بچن ص ۳۱، روحانی خزائن ج ۱۰ ص نمبر ۱۴۳)

(۴) اس شخص کی حالت ایک مخلوط الحواس شخص کی حالت ہے جو ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ (حقیقۃ الوحی ص ۱۸۴، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۱۹۱)

(۵) نبی اور فلسفی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کے کلام میں تضاد ہوتا ہے اور نبی کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا۔

(لجۃ النور ص ۵۳، روحانی خزائن ج ۱۶ ص ۳۸۹-۳۹۰)

(۶) تناقض بے عقلی، بے دینی اور خبط الحواس کی دلیل ہے۔

(انجام آتھم ص ۸۳، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۸۳)

آگے بڑھنے سے پہلے ان فتاویٰ کو ذہن نشین کر لیں اور تضادات پڑھنے کے دورا

ن بار بار دہراتے رہیں بہت فائدہ ہوگا۔

جادوہ جو سر چڑھ کر بولے

الہامات کا بہانہ بنا کر تضادات کا اعتراف مرزا قادیانی کی زبانی

کیا یہ طریق بے ایمانی نہیں کہ براہین احمدیہ کی اس عبارت کو تو پیش کرتے ہیں جہاں میں نے معمولی اور رسمی عقیدہ کی رو سے مسیح کی آمد ثانی کا ذکر کیا ہے اور یہ پیش نہیں کرتے کہ اسی براہین احمدیہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی موجود ہے یہ ایک لطیف استدلال ہے جو خدا نے میرے لئے براہین احمدیہ میں پہلے سے تیار کر رکھا ہے ایک دشمن بھی گواہی دے سکتا ہے کہ براہین احمدیہ کے وقت میں اس سے بے خبر تھا کہ میں مسیح موعود ہوں تبھی تو میں نے اس وقت یہ دعویٰ نہ کیا پس وہ الہامات جو میری بے خبری کے زمانہ میں مجھے مسیح موعود قرار دیتے ہیں ان کی نسبت کیونکہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کا افترا ہیں کیونکہ اگر وہ میرا افترا ہوتے تو میں اسی براہین میں ان سے فائدہ اٹھاتا اور اپنا دعویٰ پیش کرنا اور کیونکہ ممکن تھا کہ میں اسی براہین میں یہ بھی لکھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا ان دونوں تناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا ایک منصف جج کو اس رائے کے ظاہر کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے کہ درحقیقت میرے دل کو اس وحی الہی کی طرف سے غفلت رہی جو مسیح موعود ہونے کے بارے میں براہین احمدیہ میں موجود تھی اس لیے میں نے ان تناقض باتوں کو براہین میں جمع کر دیا۔

(اعجاز احمدی ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۴)

دوسرے قادیانی سربراہ مرزا بشرا الدین محمود کا اعتراف

”پس اختلاف تو ثابت ہے اور اس کے وجود میں کوئی شک نہیں اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ اختلاف کیسا اختلاف ہے کیونکہ اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اختلاف ظاہری ہیں جن سے اس کلام کرنے والے یا اس تحریر کے لکھنے والے پر کوئی الزام نہیں آتا صرف ظاہری شکل میں دو قولوں میں اختلاف ہوتا ہے اور ایک اختلاف ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کلام میں وہ پائے جائیں اس پر الزام جھوٹ کا آتا ہے اور اسی کے متعلق سائل حضرت مسیح موعود سے سوال کرتا ہے کہ آپ کی دو تحریروں میں اختلاف ہے اور وہ دونوں تحریریں نقل کرتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ اختلاف کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اسے کیوں نہ آپ کے کذب کی علامت قرار دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک..... اگر حضرت مسیح موعود یہ جواب دیتے کہ کوئی تناقض نہیں ان دونوں حوالوں کا مطلب ایک ہی ہے تب بھی گودشمن اس پر ہستایا اعتراض کرتا ہم پر حضرت مسیح موعود کی تشریح کا قبول کرنا ضروری تھا لیکن حضرت مسیح موعود نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے تناقض کو قبول کیا ہے۔“

”اور حضرت مسیح موعود اس تناقض کو قبول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تناقض تو ہے اور پھر غضب تو یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ خود مسیح موعود فرماتے ہیں کہ دونوں عبارتوں میں تناقض ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی تناقض نہیں۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۴ مندرجہ، انوار العلوم ج ۱۲ ص ۳۵۷)

مرزا کے اپنے ذاتی حالات کے متعلق تضادات

پہلی فصل: نام و نسب، تعلیم و ملازمت وغیرہ

(۱) پہلا قول: قوم مغل برلاس:

ہمارے قوم مغل برلاس ہے۔ (کتاب البریہ صفحہ ۱۴۴، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۲)

دوسرے اقوال: فارسی الاصل ہوں:

”عرصہ سترہ یا اٹھارہ برس کا ہوا کہ خدا تعالیٰ کے متواتر الہامات سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے دادا فارسی الاصل ہیں۔“

(کتاب البریہ ص ۱۴۴، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۲)

اسرائیلی اور فاطمی:

”میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی ہوں۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۶)

چینی قوم سے تعلق:

”اس کشف کے مطابق میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے ہیں۔“

(تختہ گولڑویہ ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۱۷۷)

چشمہ معرفت ص ۳۱۵، روحانی خزائن ص ۳۳۱ جلد ۲۳ پر بھی یہی بات لکھی ہے۔

(۲) پہلا قول دنیوی استادوں سے پڑھنے کا اقرار:

”بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب چھ سات سال کا تھا تو ایک فارسی خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا، جنہوں نے

قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریباً (۱۰) دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خوان مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کے گئے جن کا نام فضل احمد تھا..... اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو، ان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا ان کا نام گل علی شاہ تھا..... اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھیں۔“

(کتاب البریہ ص ۱۸۴ تا ۱۵۰، مندرجہ روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۷۹ تا ۱۸۱)

نوٹ: سیرت المہدی حصہ اول صفحہ ۱۲۰، ۱۲۱ روایت نمبر ۱۲۹ پر بھی یہی بات لکھی گئی ہے۔ دوسرا قول: دنیوی تعلیم میں کسی کا شاگرد ہونے سے انکار:

”میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے۔“

(ایام الصلح ص ۱۴۷، روحانی خزائن ج ۱۴ ص ۳۹۴)

(۳) پہلا قول مرزا انگریزی سے نابلد تھا:

”میں انگریزی نہیں جانتا، اس کوچہ سے بالکل ناواقف ہوں ایک فقرہ تک مجھے معلوم نہیں ہے۔“

(نزول المسیح ص ۱۴۰، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۵۱۶)

دوسرا قول مرزا انگریزی جانتا تھا:

”اس زمانہ میں مولوی الہی بخش صاحب کی سعی سے جو چیف محمد مدرس تھے (اب

سے عہدہ کا نام ڈسٹرکٹ انسپکٹر مدرس ہے) کچہری کے ملازم منشیوں کے لئے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو کچہری کے ملازم منشی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت اسٹنٹ سر جن پنشنر ہیں استاد مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب نے بھی انگریزی شروع کی

اور ایک دو کتا بین انگریزی کی پڑھیں۔“ (سیرت المہدی، ج ۱ ص ۱۵۵)
نوٹ: یہ تضاد بارہویں باب میں لکھنے کی بجائے وحدت عنوان کی وجہ سے یہاں لکھا گیا ہے۔ از مؤلف عفا اللہ عنہ۔

(۴) پہلا قول سیالکوٹ میں مدت ملازمت چار سال:

مرزا صاحب نے سیالکوٹ میں ۱۸۶۲ء تا ۱۸۶۸ء ملازمت کی۔

(محصلاً سیرت المہدی، ج ۱ ص ۱۵۲ء تا ۱۵۷ء)

دوسرا قول مدت ملازمت سات سال:

”اور میں وہی شخص ہوں جو براہین احمدیہ کے زمانے میں تخمیناً سات برس رہ چکا ہوں۔“ (لیکچر سیالکوٹ ص ۴۰، روحانی خزائن ج ۲۰)

(ص ۲۴۲)

(۵) پہلا قول بیماری سے حفاظت کا خدائی وعدہ:

”اس نے (اللہ تعالیٰ نے) مجھے براہین میں بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۳۱، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۷ حاشیہ)

دوسرا قول مرزا کی خطرناک بیماریاں:

”میں ایک دائم المرض آدمی ہوں اور وہ زردچادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چادروں میں مسیح نازل ہوگا وہ زردچادریں میرے شامل حال ہیں جن کی تعبیر علم تعبیر الرؤیا کی رو سے دو بیماریاں ہیں سو ایک چادر میرے اوپر کے حصہ میں ہے کہ ہمیشہ سرد درداور دوران سر اور کی خواب اور تنخ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور

بسا اوقات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال ہیں۔“ (ضمیمہ اربعین ص ۳-۴، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۷۰-۱۷۱)

(۶) پہلا قول انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا:

”ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ انبیاء کو احتلام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے (یعنی مرزا نے) فرمایا کہ چونکہ انبیاء سوتے جاگتے پاکیزہ خیالوں کے سوا کچھ نہیں رکھتے اور ناپاک خیالوں کو دل میں آنے نہیں دیتے اس واسطے ان کو خواب میں بھی احتلام نہیں ہوتا۔“ (سیرت المہدی، ج ۱ ص ۱۵۷، روایت نمبر ۱۵۰)

دوسرا قول مرزا کو احتلام ہوا:

ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے خادم میاں حامد علی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوا۔

(سیرت المہدی، ج ۳ ص ۲۴۲، روایت نمبر ۸۴۳)

(۷) پہلا قول قادیان طاعون سے محفوظ رہا:

”قادیان طاعون سے اس لئے محفوظ رکھا گیا کہ وہ خدا کا رسول اور

فرستادہ قادیان میں تھا۔“ (دافع البلاء ص ۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۲۶)

دوسرا قول قادیان میں طاعون آیا:

”ایک دفعہ کسی قدر شدت سے طاعون قادیان میں ہوئی۔“

(ہفتۃ الوحی ص ۲۳۲، روحانی خزائن ج ۲ ص ۲۴۴)

معجزات کی تعداد کے متعلق تضاد بیانی

مرزا غلام احمد لکھتا ہے غرض اصلی اور بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔

(براہین احمدیہ ج ۵ ص ۴۷، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۶۰)

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرزا کے نزدیک معجزہ اور نشان مترادف الفاظ ہیں مرزا کے معجزات رب کی طرح پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مرزا نے اپنے معجزات کی تعداد بتانے میں جس مبالغہ آمیزی اور تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ قادیانی کیا یہ بتائیں گے کہ ذیل میں دیے گئے اعداد و شمار میں سے کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط اور اگر سب ہی صحیح ہیں تو کس طرح؟

(۸) پہلا قول ۱۸۹۳ء میں تین ہزار سے زائد:

پھر ماسوائے اس کے آج کی تاریخ تک جو ۱۱ ربیع الاول ۱۳۱۱ھ مطابق ۲۲ ستمبر ۱۸۹۳ء اور نیز مطابق ۸/۱۸ سونچ ۱۹۵۰ء اور بروز جمعہ ہے۔ اس عاجز سے تین ہزار سے کچھ

زیادہ ایسے نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔ (شہادۃ القرآن ص ۷۵، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۶۹)

دوسرا قول ۱۹۰۰ء میں ایک سو:

”اور وہ نشان جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے وہ سو سے بھی زیادہ ہیں۔“ (اربعین ج ۳ ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۸۱، سن تالیف ۱۹۰۰ء)

۱۹۰۲ء میں صد ہا نشان:

”ایسا ہی میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر صد ہا نشان ظاہر ہوئے۔“

(تذکرۃ الشہادتین ص ۳۴، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۶، سن تالیف ۱۰۹۲)

صرف دوسطروں کے بعد مرزا صاحب نے الٹی زندقہ لگاتے ہوئے لکھا۔

”اب تک دو لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں۔“

(تذکرۃ الشہادتین ص ۳۴، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۶، سن تالیف ۱۰۹۲)

دس لاکھ معجزات:

مذکورہ کتاب میں صرف پانچ صفحات کے بعد لکھا۔

”جس شخص کے ہاتھ سے اب تک دس لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہو چکے

ہیں اور ہو رہے ہیں۔“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۳۱، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۴۳)

۱۹۰۵ء میں دس لاکھ معجزات:

(ر): اور اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شمار

کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لاکھ سے زیادہ ہوں گے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۷۲، سن تالیف ۱۹۰۵ء)

۱۹۰۷ء میں تین لاکھ معجزات:

”اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو میری تائید میں ظہور میں آچکے ہیں آج کے

دن تک شمار کیا جائے تو وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۴۶، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۴۸، سن تالیف ۱۹۰۷ء، حاشیہ)

۱۹۰۷ء میں ہی سینکڑوں معجزات:

حقیقۃ الوحی میں ہی ۱۱ صفحات کے بعد لکھا:

”جو شخص مجھ کو باوجود صد ہا نشانوں کی مفتری ٹھہراتا ہے وہ مؤمن کیونکر

ہو سکتا ہے۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

تین لاکھ معجزات:

ستم ظریفی یہ ہے کہ صفحہ ۱۶۳ پر صد ہا معجزات کے اعتراف کے فوراً بعد اگلے صفحہ یعنی

”میرے معجزات تین لاکھ ہیں۔“ (روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

ناطقہ سرگرمیاں ہے اسے کیا کہیے

۱۹۰۸-۱۹۰۷ء میں ایک لاکھ معجزات:

مرزا نے چشمہ معرفت میں جو کہ اپنی وفات سے صرف چھ ماہ قبل لکھی تھی اپنی زندگی کا حاصل ایک لاکھ معجزات قرار دیئے۔ عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

”میں وہ تمام معجزات پیش کرتا ہوں جو مجھ کو خود دکھائے گئے ہیں وہ تمام معجزات ایک لاکھ کے قریب ہیں بلکہ غالباً وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“ (ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۳۳، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۴۰۳، سن تالیف دسمبر ۱۹۰۷ء،

(۱۹۰۸)

مرزا کی نبوت کا یہ عبرتناک پہلو ہے کہ اسے اپنے معجزات کی صحیح تعداد بھی معلوم نہیں ہے کوئی سچا نبی اپنے معجزات کی تعداد متعین کرنے کی بحث میں نہیں پڑا۔ لیکن مرزا اپنی جھوٹی نبوت کو سہارا دینے کے لئے معجزات کی تعداد میں خود بھی الجھا اور دوسروں کو بھی الجھائے رکھا اور اس طرح اس کی ہر بات وحی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔

تیسری فصل:

مرزا پر الہامات کی ابتداء کب ہوئی؟
چند شاہکار تضادات

ہر سچے نبی کو اپنے پرنازل ہونے والی وحی اور الہامات کی صداقت میں اپنی بعثت کی ابتدائی تاریخ معلوم ہونے میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا، مرزا قادیانی چونکہ جعلی نبی تھا اس لئے اسے ہمیشہ اپنی وحی کی ابتداء کے تعین میں شک و شبہ ہی رہا اگر وہ سچا نبی ہوتا تو ان شبہات میں مبتلا نہ ہوتا۔ ابتداء وحی کا سن متعین کرنے کے متعلق اس کے تضادات ملاحظہ فرمائیں۔

(۹) پہلا قول ۱۸۶۵ء:

”میری عمر اسی برس کی ہوگی۔ یہ الہام قریباً پینتیس برس سے ہو چکا ہے۔“ (اربعین ج ۳ ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۴۱۹، سن تالیف ۱۹۰۰ء)

۱۹۰۰ء سے ۳۵ تفریق کریں تو ۱۸۶۵ء متعین ہوتا ہے۔

(دیگر اقوال):

(۱) ”۱۸۶۷ء میرے عمر اسی برس کی ہوگی..... یہ الہام قریباً پینتیس برس سے ہو چکا ہے۔“

(ضمیمہ تحفہ گوڑویہ، ص ۱۹، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۶۶، سن تصنیف ۱۹۰۲ء)

۱۹۰۲ء سے پینتیس تفریق کریں تو ۱۸۶۷ء باقی بچتا ہے۔

(۲) ”۱۸۷۰ء، یہ دعویٰ من جانب اعلیٰ ہونا اور مکالمات الہیہ تقریباً تیس

برس سے ہے۔“ (اربعین ج ۳ ص ۷، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۳۹۱، سن

(تصنیف ۱۹۰۰ء)

۱۹۰۰ء، ۱۸۳۰-۱۸۷۰ء:

(۳) ”۱۸۷۲ء یہ دعویٰ منجانب اللہ ہونے اور مکالمات الہیہ کا قریبائیں
برس سے ہے۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈویس ۶ روحانی خزائن ج ۲۲، جلد ۱ سن تالیف ۱۹۰۲ء)

۱۹۰۲ء، ۱۸۳۰-۱۸۷۲ء:

(۴) ”۱۸۷۴ء میں خدا کی تئیس برس کی متواتر وحی کو کیسے رد کر سکتا ہوں میں
اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا
ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴، سن تصنیف ۱۹۰۷ء)

۱۹۰۷ء، ۱۸۲۳-۱۸۷۴ء:

(۵) ”۱۸۷۸ء میں تقریباً تئیس برس سے خدا کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف
ہوں۔“

(پیغام صلح ص ۱۳، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۴۴، سن تصنیف ۱۹۰۸ء)

۱۹۰۸ء، ۱۸۳۰-۱۸۷۸ء:

(۶) ”۱۸۷۹ء سواس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی
کریم کے نمونہ پر وحی پانے میں تئیس برس کی مدت دی گئی اور تئیس برس تک
برا بر یہ سلسلہ وحی کا جاری رکھا گیا۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈویس ۱۲، روحانی خزائن ج ۱ ص ۵۸، سن تالیف ۱۹۰۲ء)

۱۹۰۲ء، ۱۸۲۳-۱۸۷۹ء:

”۱۸۸۱ء وہ آدم اور ابن مریم یہی عاجز ہے اور اس عاجز کا یہ دعویٰ دس

برس سے شائع ہو رہا ہے۔“

(ازالہ ابہام ص ۶۹۵ روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۷۵، سن تالیف ۱۸۹۱ء)

۱۸۹۱ء، ۱۸۱۰-۱۸۸۱ء:

”۱۸۸۱ء، یہ عاجز اپنی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لئے
بالہام خاص مامور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ اسی برس تک یا اس کے قریب
تیری عمر ہے سواس الہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے جن میں
دس برس کامل گزر بھی گئے۔“

(نشان آسمانی صفحہ ۱۴، روحانی خزائن ج ۴ ص ۳۷۲، سن تالیف ۱۸۹۲ء)

۱۸۹۲ء، ۱۸۱۰-۱۸۸۲ء:

خلاصہ یہ ہے کہ مرزا کو اپنی نبوت اور وحی الہام کے متعلق (نو) قوال ہیں ۱۸۶۵ء

۱۸۶۷ء، ۱۸۷۰ء، ۱۸۷۲ء، ۱۸۷۴ء، ۱۸۷۸ء، ۱۸۷۹ء، ۱۸۸۱ء، ۱۸۸۲ء۔

کس کا اعتبار کیجئے اور کس کا نہ کیجئے

لائے ہیں بزم یار سے خبر الگ الگ

☆☆☆

چوتھی فصل:

آسمانی تائید علوم لدنیہ وغیرہ کے متعلق تضادات (۱۰) پہلا قول: علم لدنی کا دعویٰ:

”اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) اپنے پاس سے میری مدد کی اور مجھے دوست پکڑا اور اس نے مجھ پر ان راست بازوں کے علوم کھول دیئے ہیں جو پہلے گزرے ہیں اور مجھے وارثوں میں سے کیا ہے۔“

(نورالحق ج ۲ ص ۲۰، روحانی خزائن ج ۸ ص ۲۱۱)

دیگر اقوال: مرزا صاحب کی جہالت کے چند نمونے:

پہلا نمونہ:

”لم یلد کالفظ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں کسی کا جنمایا ہوا نہیں۔“ (ست بچن ص ۱۴۰، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۲۶۴)

(لم یلد کا درست ترجمہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں۔)

دوسرا نمونہ:

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لڑکے تھے۔“

(چشمہ معرفت ۲۸۶، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۹۹)

تجلیات الہیہ ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۰ پر بھی یہی مضمون ہے۔

تیسرا نمونہ:

”تاریخ کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا اور مان صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔“

(پیغام صلح ص ۳۸، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۵)

(۱۱) پہلا قول: فصاحت و بلاغت کے معجزہ کا دعویٰ:

خدا نے مجھے چار نشان دیئے ہیں۔

(۱) ”میں قرآن شریف کے معجزے ظل کے طور پر عربی بلاغت و فصاحت کا

نشان دیا گیا ہوں، ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

(ضرورت الامام صفحہ ۲۵ روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۴۹۶)

حقیقۃ الوحی ص ۲۲۴، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۵ جلد ۲۲ اور ایام الصلح ص ۱۷۲ روحانی

خزائن ص ۴۲۰ جلد ۱۴ پر بھی یہی مضمون ہے۔

دوسرے اقوال

مرزا صاحب کی عربی فصاحت و بلاغت کے چند نمونے:

(۱) ”سالت عنی دلیلا علیہ“

(نورالحق ص ۵۶ جلد ۱ روحانی خزائن ج ۸ ص ۷۷)

درست جملہ یوں ہے سالتنی عن دلیل علیہ.

(۲) ”والتشوق الی رقص البغایا وبؤسهن وعناقهن“

(ترجمہ مرزا قادیانی) ”اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف

اور ان کا بوسہ اور گلے پلٹنا۔“ (خطبہ الہامیہ ص ۴۹، روحانی خزائن ج ۱۶ ص ۴۹)

مرزا نے بوسہ لینا کی عربی بوسہ ہی لکھ دی ہے جو کہ صراحتہ غلط ہے۔ بوسہ فارسی

زبان کا لفظ ہے۔ عربی کا نہیں ہے۔

(۳) ”سبقاء کو الجھا“ (نورالحق ج ۱ ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۸ ص ۱۶۸)

کالج کی جمع مرزا نے کوانج لکھی ہے اور کالج کو عربی لفظ سمجھا ہے۔ حالانکہ کالج کو

عربی میں کلیہ کہتے ہیں۔

(۱۲) پہلا قول:

اگر آسمان کے نیچے میری طرح اور بھی کوئی تائید یافتہ ہے تو کیوں وہ میرے مقابل نہیں آتا خدا نے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرمایا ہے خدا نے مجھے آسمان سے نشان دیے ہیں خدا نے مجھے زمین سے نشان دیے ہیں خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا۔ (تھگلوڑ ویس ۹۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۸۱)

دوسرا قول:

مرزا بشیر احمد کا دل بے لفظوں میں اعتراف کہ مرزا صاحب مخالفین کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے۔
”خاکسار عرض کرتا ہے کہ یوں تو حضرت مسیح موعود کی ساری عمر جہاد کی صف اول میں ہی گزری ہے لیکن باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف پانچ کئے ہیں۔

اول.....: ماسٹر مرلی دھر آریہ کے ساتھ بمقام ہوشیار پور مارچ ۱۸۸۶ء میں اس کا ذکر آپ نے سرمہ چشم آریہ میں کیا ہے۔

دوسرے.....: مولوی محمد حسین بٹالوی کے ساتھ بمقام لدھیانہ جولائی ۱۸۹۱ء میں اس کی کیفیت رسالہ الحق لدھیانہ میں چھپ چکی ہے۔

تیسرے.....: مولوی محمد بشیر بھوپالی کے ساتھ بمقام دہلی اکتوبر ۱۸۹۱ء میں اس کی کیفیت رسالہ الحق دہلی میں چھپ چکی ہے۔

چوتھے.....: مولوی عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ بمقام لاہور جنوری و فروری ۱۸۹۲ء میں اس کی روداد اور شائع نہیں ہوئی صرف حضرت صاحب کے اشتہار مؤرخہ ۳ فروری ۱۸۹۲ء میں اس کا مختصر ذکر پایا جاتا ہے۔

پانچویں.....: ڈپٹی عبداللہ آتھم مسیحی کے ساتھ بمقام امرتسر میں جون ۱۸۹۳ء میں اس کی کیفیت جنگ مقدس میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ دو اور جگہ مباحثہ کی صورت پیدا ہو کر رہ گئی ہے۔

”اول مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ بمقام بٹالہ ۶۹ یا ۱۸۶۸ء میں۔ اس کا ذکر حضرت صاحب نے براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ ۵۲۰ پر کیا ہے۔ دوسرے مولوی سید نذیر حسین صاحب شیخ الکل دہلوی کے ساتھ بمقام جامع مسجد دہلی بتاریخ ۲۰ اکتوبر ۱۸۹۱ء اس کا ذکر حضرت صاحب کے اشتہارات میں ہے۔“

(سیرت المہدی حصہ اول ص ۳۸۹، ۳۹۰ روایت نمبر ۲۴۰)

تجزیہ: مرزا صاحب کے یہ پانچوں مناظرے تحریری تھے؟ کیا مرزائی یہ بتائیں گے کہ مرزا صاحب بالمشافہ گفتگو سے کیوں گھبراتے تھے؟

مرزا صاحب نے مسلم یورینیورسٹی علی گڑھ میں تقریر کرنے کا وعدہ کیا۔

(سیرت المہدی حصہ اول ص ۷۹، روایت نمبر ۹۹)

مگر اس وعدہ کو عملی جامہ پہنانے سے گریز کیا۔ آخر کیوں؟

مختلف شخصیات اور واقعات کے بارے میں تضاد بیانی میر عباس علی کے متعلق

(۱۳) پہلا قول: مرزا نیت قبول کرنے پر:

”ان کے مرتبہ اخلاص کو ثابت کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ اس عاجز کو ان کے حق میں الہام ہوا تھا ”اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء“ اس کی جڑ نہایت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئیں ہیں۔“ (ازالہ ابہام ص ۷۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۲۸)

دوسرا قول: مرزا نیت کو چھوڑنے پر:

”چند سالوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مکتوب میرا ان کی خاص دستخطی موجود ہے..... دنیا کیسا عبرت کا مقام ہے جب انسان پر شقاوت کے دن آتے ہیں۔“ (المسح ص ۲۴۰، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۶۱۸)

”مولانا عبدالحق غزنوی کے متعلق“

(۱۴) پہلا قول: مباہلہ کا چیلنج مرزا کی طرف سے نہ تھا:

”مباہلہ دراصل میری درخواست سے نہیں تھا اور نہ میرا اس میں یہ مدعا تھا کہ عبدالحق پر بدعا کروں اور نہ میں نے بعد مباہلہ کبھی اس بات کی طرف توجہ کی۔“ (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۲۰-۲۱، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۳۰۵)

دوسرا قول: مباہلہ کا مرزا نے چیلنج دیا:

”صد ہا مخالف مولویوں کو مباہلہ کے لئے بلایا گیا جن میں سے عبدالحق

غزنوی میدان میں نکلا اور مباہلہ کیا۔“

(نزول المسیح ص ۱۹۶، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۵۷۲)

”بابا گورونانک کے متعلق“

(۱۵) پہلا قول: بابا گورونانک کو چولہ غائب سے ملا تھا:

”ہم باوا صاحب کی کرامت کو اسی جگہ مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ وہ چولہ انہیں غائب سے ملا اور قدرت کے ہاتھ نے ان پر قرآن شریف لکھ دیا۔“ (ست بچن ص ۶۸، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۱۹۲)

دوسرا قول: بابا گورونانک کو ان کے مسلمان مرشد نے چولہ دیا تھا

”اسلام میں چولے رکھنا اس زمانے میں فقیروں کی ایک رسم تھی پس یہ بات بہت صحیح ہے کہ باوا صاحب کے مرشد نے جو مسلمان تھا یہ چولا ان کو دیا تھا۔“ (نزول المسیح ص ۲۰۵، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۵۸۳)

عبداللہ آتھم عیسائی کے متعلق

(۱۶) پہلا قول: پیش گوئی کی وجہ آتھم کا عقیدہ تثلیث تھا:

”تو اس نے (اللہ تعالیٰ نے۔ ناقل) مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس میں بحث دونوں فریقوں میں سے جو فریق عملاً جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباحثہ (جاری) کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر یعنی پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔“

(جنگ مقدس ص ۲۰۹-۲۱۰، روحانی خزائن ج ۶ ص ۲۹۱-۲۹۲)

دوسرا قول: آنحضرت ﷺ کی اہانت کی وجہ سے پیشگوئی کی تھی:

”اس نے عین جلسہ مباحثہ میں ستر معزز آدمیوں کے روبرو آنحضرت کو دجال کہنے سے رجوع کر لیا تھا اور پیش گوئی کی بنا یہی تھا کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا۔“ (کشتی نوح ص ۶، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۶)

(۱۷) پہلا قول: عیسائیوں کو ذلت پہنچی:

”پس اے حق کے طالبو! یقیناً سمجھو کہ ہاویہ میں گرنے کی پیش گوئی پوری نکلی اور اسلام کی فتح ہوئی اور عیسائیوں کو ذلت پہنچی۔“

(نور الاسلام ص ۷، روحانی خزائن ج ۹ ص ۷)

دوسرا قول: عیسائیوں نے جشن فتح منایا:

”انہوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد اور بمبئی اور کلکتہ اور دور دور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر ٹھٹھے کئے اور یہ سب مولوی یہودی صفت اور اخباروں والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔“ (سراج منیر ص ۵۲، روحانی خزائن ج ۱۲ ص ۵۲)

(۱۸) پہلا قول: انجیل میں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے:

”قرآن تمہیں انجیل کی طرح یہ نہیں کہتا کہ ہرگز قسم نہ کھا۔“

(کشتی نوح ص ۲۷، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص ۲۹)

”انجیل میں قسم اٹھانے کی ممانعت نہیں“

دوسرا قول:

”یہ سب جھوٹے بہانے ہیں کہ قسم کھانا منع ہے۔“

(تاریق القلوب ص ۹۸، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۳۶۲)

(۱۹) پہلا قول: آتھم سات ماہ بعد مرا:

”وہ آتھم ہمارے آخری اشتہار سے جو اتمام حجت کی طرح تھا سات ماہ کے اندر ہی فوت ہو گیا۔ (سراج منیر ص ۶، روحانی خزائن ج ۱۲ ص ۸)

دوسرا قول: آتھم پندرہ ماہ بعد فوت ہوا:

”آتھم میرے آخری اشتہار سے پندرہ ماہ کے اندر مر گیا۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۲۰۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۶)

”پنڈت لیکھرام کے متعلق“

(۲۰) پہلا قول: خارق عادت عذاب کی پیش گوئی:

”اگر اس شخص پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیف سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر انوار الہی کی ہیبت رکھتا ہو تو سمجھ لو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔“

(ضمیمہ آئینہ کمالات اسلام ص ۳، روحانی خزائن ج ۵ ص ۶۵۰، ۶۵۱)

نوٹ: تاریق القلوب ص ۱۰۷ اور روحانی خزائن جلد ۱۵ ص ۳۸۱ پر بھی یہی مضمون ہے۔

دوسرا قول: چھری سے مارے جانے کی پیش گوئی:

”جس کی لاش اس تصویر میں دیکھ رہے ہو یہ ایک ہندو متعصب آریہ دشمن اسلام تھا جس نے میری نسبت اپنی کتب میں پیش گوئی کی تھی کہ یہ شخص تین برس تک ہیضہ سے مارا جائے گا اور میں نے بھی اس کی نسبت پیش گوئی کی تھی کہ چھ برس تک چھری سے مارا جائے گا۔“

(نزل المسیح ص ۱۷۵، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۵۵۳)

تجزیہ: مرزا صاحب نے خارق عادت کی تعریف یہ لکھی ہے۔

”خارق عادت وہ ہے جس کی دنیا میں نظیر نہ پائی جائے“

(ہفتیۃ الوحی ص ۱۹۶، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۴)

اس لئے قول اوّل میں مندرجہ پیش گوئی کا تقاضا یہ تھا کہ پنڈت لیکھرام کسی غیر معمولی عذاب سے مرزا جس کی دنیا میں مثال نہ ملتی۔ چھری چاقو سے دنیا میں ہزاروں افراد مرتے رہتے ہیں۔ چھری سے مارا جانا خارق عادت اور بے نظیر عذاب کیسے بن گیا؟

الہامات کا مصداق متعین کرنے کے بارے میں

(۲۱) پہلا قول: ایک سقہ مصداق ہے:

”ایک سقہ مر گیا اسی دن اس کی شادی تھی آپ نے فرمایا مجھے خیال آیا قتل خبیۃ وَ زَیْدَ حَبِیْبَۃ جو جی آئی تھی وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔“

(اخبار البدر نمبر ۵ جلد ۲-۲۰ فروری ۱۹۰۳ء بحوالہ محمد پاکٹ بک ص)

دوسرا قول: مولوی عبداللطیف مصداق ہے:

اس سے پہلے ایک صریح وحی الہی مولوی عبداللطیف کی نسبت ہوئی تھی یہ وحی البدر ۱۶ جنوری کالم نمبر ۲ میں شائع ہو چکی ہے جو مولوی صاحب کے مارے جانے کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے۔ قُتِلَ حَبِیْبَۃ وَ زَیْدَ حَبِیْبَۃ۔

(تذکرہ الشہادتین ص ۷۳، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۷۵)

(۲۲) پہلا قول: مرزا احمد بیگ اور سلطان بیگ مصداق ہیں:

”ان پیش گوئیوں میں علاوہ اور پیش گوئیوں کے جو ان کے ضمن میں بیان کی گئیں ہیں دو بکریوں کے ذبح ہونے کی پیش گوئی احمد بیگ اور اس کے داماد کی طرف کی اشارہ ہے جو آج سے سترہ برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہے۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۷، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۳۴۱)

دوسرا قول: مولوی عبداللطیف اور اس کا شاگرد مصداق ہیں:

”اب بعد اس کے بقیہ ترجمہ کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ میں تجھے قتل سے بچاؤں گا مگر تیری جماعت میں سے دو بکریاں ذبح کی جائیں گی..... اور یہ پیش گوئی شہید مرحوم مولوی عبداللطیف اور ان کے شاگرد عبدالرحمن کے بارے میں ہے کہ جو براہین احمدیہ کے لکھے جانے کے بعد پورے تیس برس بعد پوری ہوئی۔“

(تذکرہ الشہادتین ص ۷۰، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۷۲)

محمدی بیگم کے متعلق تضاد بیانی

(۲۳) پہلا قول: محمدی بیگم باکرہ یا بیوہ ہو کر لوٹے گی:

”ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس عاجز نے ایک دینی خصوصیت کے پیش آ جانے کی وجہ سے ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی عزیز میرزا احمد بیگ ولد میرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے۔“

(مجموعہ اشتہارات، ج اول ص ۲۱۹)

دوسرا قول: محمدی بیگم بیوہ ہو کر آئے گی:

اس پیش گوئی کے اجزاء یہ ہیں:

(۴) اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو۔

(۵) اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو۔

(۶) اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں۔ (شہادۃ القرآن ص ۸۰، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۷۶)

(۲۴) پہلا قول: حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑی کے متعلق

(تفسیر نویسی کا عمومی چیلنج تھا جو کہ تفسیر لکھنے کے بعد مرزائے دیا)

”رسالہ اعجاز مسیح جب فصیح عربی میں میں نے لکھا تو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر میں نے یہ اعلان شائع کیا کہ اس رسالہ کی نظیر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مولوی پیش نہیں کر سکے گا تب ایک شخص پیر مہر علی نام ساکن گولڑہ نے یہ لاف و گزاف مشہور کی کہ گویا وہ ایسا ہی رسالہ لکھ کر دکھلائے گا اس وقت خدا کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا منع مانع من السماء یعنی ایک مانع نے آسمان سے اس کو نظیر پیش کرنے سے منع کر دیا تب وہ ایسا ساکت اور لا جواب ہو گیا کہ اگرچہ عوام الناس کی طرح اردو میں بکواس کرتا رہا مگر عربی رسالہ کی نظیر آج تک نہ لکھ سکا۔“ (حقیقۃ الوحی ۳۷۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۳۹۳)

دوسرا قول: تفسیر نویسی کا چیلنج خاص پیر صاحب کو تھا اور مقابلہ پر اتفاق جانبدار ابتداء ہو چکا تھا:

”ناظرین کو اس کی حالت اور کوائف پر پوری اطلاع پانے کے لئے یاد رکھنا چاہیے کہ اعجاز مسیح حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عربی تصنیف ہے جو ستر دن کے اندر باوجود یکہ چار جز کا وعدہ تھا ساڑھے بارہ جز پر شائع ہو گئی اور ۲۳ فروری ۱۹۰۱ء کو پیر گولڑوی کو بصیغہ رجسٹری بھیجی گئی اور بالمقابل پیر صاحب کی طرف سے ستر دن کے اندر چار جز اور ساڑھے بارہ کجا ایک آدھ صفحہ بھی اعجازی عربی تفسیر کا شائع نہیں ہوا اور اس طرح پیر الہام منع مانع من السماء پورا ہو گیا پیر گولڑوی کی علمیت عربی دانی و قرآن دانی کا راز

طشت از بام ہو گیا۔ (اخبار الحکم ۱۷ جنوری ۱۹۰۲ء بحوالہ عشرۃ کاملہ ص ۶۵)

تجزیہ: ان حوالوں سے مرزا کے دو تضاد معلوم ہوئے۔

(۱) الحکم کی تحریر سے معلوم ہوا کہ منعه مانع من السماء الہام تفسیر کی

اشاعت سے پہلے ہو چکا تھا جبکہ حقیقۃ الوحی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیر صاحب گولڑوی نے تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تب یہ الہام ہوا۔

(۲) حقیقۃ الوحی سے معلوم ہوا کہ مرزا کا چیلنج عمومی تھا جبکہ الحکم رسالہ سے

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کا چیلنج خصوصی تھا۔



تیسرا باب:

مرزا کے متضاد دعوے

پہلی فصل: دعویٰ نبوت کا اقرار و انکار

(۲۵) پہلا قول: ختم نبوت کا اقرار:

”اور میں ولایت کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں جیسا کہ ہمارے سید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے اور وہ خاتم
الانبیاء ہیں۔ (خطبہ الہامیہ ص ۳۵، روحانی خزائن ج ۱۶ ص ۶۹-۷۰)

دوسرا قول: عین محمد ﷺ ہونے کا دعویٰ:

”اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام حمد اور احمد
رکھا اور مجھے آنحضرت ﷺ کا وجود قرار دیا ہے۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۲)

(۲۶) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا
ہوں۔“ (آسمانی فیصلہ ص ۳، روحانی خزائن ج ۴ ص ۳۱۳)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”اب بجز محمدی کے سبب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور
بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے پس اس بناء پر میں امتی بھی ہوں ورنہ نبی بھی۔“
(تجلیات الہیہ ص ۲۰، روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۴۱۲)

(۲۷) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”ماکان محمد اباحد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم

النبيين یعنی محمد و صلعم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور
ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔“

(ازالہ وہام ج دوم ص ۱۱۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۳۱)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

(۲۸) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”لوگو! اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم
النبین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے
سامنے حاضر کئے جاؤ گے۔“ (آسمانی فیصلہ ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۴ ص ۳۳۵)

دوسرا قول:

”مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور انجیل اور قرآن

کریم پر۔“ (اربعین نمبر ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۴)

(۲۹) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلعم خاتم الانبیاء ہیں
اور آئندہ کے بعد اس امت کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا نیا ہو یا پرانا۔“
(نشان آسمانی ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۴ ص ۳۹۰)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”یسین انک لیمن المرسلین بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔“

(خاتمہ حقیقۃ الوحی ص ۸۷، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵)

(۳۰) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”اگر حضرت مسیح سچ مچ زمین پر اتریں گے اور پینتالیس سال تک جبرائیل وحی نبوت لے کر ان پر نازل ہوتا رہے گا تو کیا ایسے عقیدے سے دین اسلام باقی رہ جائے گا اور آنحضرت صلعم کی ختم نبوت اور قرآن کی ختم وحی پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔“ (تحفہ گولڈویس ۵۲، روحانی خزائن ج ۷ ص ۱۷۵)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”اور خدا تعالیٰ اس بات کا ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اس قدر نشان دکھائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔“

(چشمہ معرفت ص ۳۱۷، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

(۳۱) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”نوع انسانی کے لئے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن اور تمام آدم زادوں کے لئے کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“ (کشتی نوح ص ۱۳، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۳)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا۔ اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔“ (تمتہ ہقیقۃ الوحی ص ۶۸، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

(۳۲) پہلا قول: مدعی نبوت کافر ہے:

”ماکان لی ان ادعی النبوة واخرج عن الاسلام والحق بقوم الکافرین۔ (میرے لئے یہ کہاں مناسب ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے

اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافر بن جاؤں)۔“

(حماتہ البشری ص ۷۹، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۹۷)

دوسرا قول: مرزا کا دعویٰ نبوت و رسالت:

”اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا کہ تم سمجھو کہ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔“ (دافع البلاء ص ۵-۶، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۶)

(۳۳) پہلا قول:

”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا۔“ (ازالہ وہام ص ۶۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۱۱)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”کوئی انسان نرا بے حیاء نہ ہو تو اس کے لئے اس سے چارہ نہیں کہ میرے دعویٰ کو اسی طرح سے مان لے جیسا کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا ہے۔“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۳۸، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۴۰)

(۳۴) پہلا قول: نبوت وہی ہے:

”ولا شک ان التحدیث موهبة مجردة لاتنال بکسب البتة کما هو شان النبوة۔“ (حماتہ البشری ص ۸۲، روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۰۱)

چشمہ مسیحی ۴۲ روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۳۶۵ پر بھی یہی حوالہ ہے۔

ترجمہ: اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثیت محض وہی ہے کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی جیسا کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

دوسرا قول: نبوت کسی ہے:

”نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی کی سیرت صدیقی کی

کھلی ہے یعنی فنائی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ظلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنچائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے اس لئے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۴، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷-۲۰۸)

(۳۵) پہلا قول: شکم مادر میں نبوت ملنے کا دعویٰ:

”اب میں بموجب آیہ کریمہ واما بنعمۃ ربک فحدث اپنی نسبت بیان کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس تیسرے درجہ (یعنی درجہ نبوت، ناقل) میں داخل کر کے وہ نعمت بخشی ہے کہ جو میری کوشش سے نہیں بلکہ شکم مادر میں ہی مجھے عطا کی گئی ہے۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۶۷، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۷۰)

دوسرا قول: مرزا کو آنحضرتؐ کے اتباع سے نبوت ملنے کا دعویٰ:

”اے نادانوں! میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبات الہیہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔“

(تتمۃ حقیقۃ الوحی ص ۶۸، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

(۳۶) پہلا قول: صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ:

”اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول یہ دعویٰ بلا دلیل ہے خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا

وہی صاحب شریعت ہو گیا پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف مجرم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔“

(اربعین ص ۶-۷، روحانی خزائن ج ۱ ص ۴۳۵)

دوسرا قول: صاحب شریعت نہ ہونے کا دعویٰ:

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے مگر بغیر کسی جدید شریعت اس طور کہ نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۱)

(۳۷) پہلا قول: مرزا کا منکر کافر نہیں:

”ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا۔“

(ترویق القلوب ص ۲۵۸، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۴۳۲)

دوسرا قول: مرزا کا منکر کافر ہے:

”کفر دو قسم پر ہے ایک کفر کہ کوئی شخص انکار کر ہو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرا یہ کفر کہ وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اگر غور سے دیکھا جائے تو دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۷۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

(۳۸) پہلا قول: نبوت بند ہے:

ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال
لاجرم شد ختم ہر پیغمبری
(براہین احمدیہ ص ۱۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۹)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول و مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔“
(ایک غلطی کا ازالہ ص ۲، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۸ ص ۲۰۶)

(۳۹) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”و ان نبینا خاتم الانبیاء لانبی بعدہ۔ بیشک ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“
(الاستفتاء ملحقہ حقیقۃ الوحی، روحانی خزائن ج ۲ ص ۶۴۳)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لئے یہ مرتبہ بخشا کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔“
(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۲ ص ۱۵۴)

(۴۰) پہلا قول: ہر قسم کی نبوت بند ہے:

”میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔“
(چشمہ معرفت ص ۳۲۴، روحانی خزائن ج ۲ ص ۳۴۰)

دوسرا قول: ظلی نبوت جاری ہے:

”غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کی ہے نہ میرے نفس کی روس اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۴، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۸ ص ۲۰۸)

(۴۱) پہلا قول: نبوت بند ہے:

ہست اوخیر الرسل خیر الانام
ہر نبوت را بروشد اختتام
(سراج منیر ص ۹۳، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۲ ص ۹۵)

دوسرا قول: نبوت و رسالت کا دعویٰ:

”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔“

”اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۳، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۸ ص ۲۰۷)

(۴۲) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”نبی کا لفظ عبری اور عربی دونوں زبانوں میں مشترک ہے دوسری کسی زبان میں یہ لفظ نہیں آیا ہے اور اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔“

(کشف الغطا ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۳ ص ۲۱۲)

دوسرا قول: نبوت جاری ہے:

”سو اس امت میں وہ ایک شخص میں ہی ہوں جس کو اپنے نبی کریم کے

نمونہ پر وحی اللہ پانے میں تینیس برس کی مدت دی گئی اور تینیس برس تک برابر یہ سلسلہ وحی کا جاری رکھا۔“ (الرابعین ص ۲۲، روحانی خزائن ج ۷ ص ۴۰۹)

(۴۳) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”وہ شخص لعنتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔“

(الحکم ۱۰ جون ۱۹۰۵ء بحوالہ مباحثہ راولپنڈی ۱۹۴)

دوسرا قول: دعویٰ نبوت و رسالت:

اگر مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جسے ٹھٹھا نہ کیا گیا ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزؤن“

(چشمہ معرفت ص ۳۲۹، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۳۴)

(۴۴) پہلا قول: حضور ﷺ پر نبوت ختم ہے:

”اللہ کے لئے یہ شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور مناسب نہیں کہ سلسلہ نبوت از سر نو شروع کرے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہے اور بعض احکام قرآن کے منسوخ کر دے اور ان پر بڑھا دے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۷۷، روحانی خزائن ج ۵ ص ۳۷۷)

دوسرا قول: مرزا کا دعویٰ نبوت:

”مجھے خدا تعالیٰ نے میری وحی میں بار بار امتی کر کے بھی پکارا ہے اور نبی کہہ کر بھی۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۴، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۵)

(۴۵) پہلا قول: نبی مطیع نہیں ہوتا:

”خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطیع اور محکوم

ہو کر نہیں آتا بلکہ وہ مطاع اور صرف اپنی اس وحی کا مطیع ہوتا ہے جو اس پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتی ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۷۶، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۱۱)

دوسرا قول: نبی مطیع ہوتا ہے:

”اور جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور جو کچھ پایا ہے آپ کے فیضان سے پایا ہے اور آپ کے باغ کا پھل ہے اور ان کی بارش کا ایک قطرہ ہے اور ان کی روشنی کا عکس ہے پس وہ لعنتی ہے اور خدا کی لعنت اس پر اور اس کے مددگاروں اور تبعین پر۔“ (ترجمہ عربی عبارت مواہب الرحمن ص ۶۹، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص ۲۸۷)

(۴۶) پہلا قول: مکتوبات مجدد میں محدث کا لفظ:

”امام ربانی صاحب اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پنجابہ وکیم ہے اس میں صاف صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور انبیاء کے مرتبہ سے اس کا مرتبہ قریب واقع ہوتا ہے۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۴۶، روحانی خزائن ج ۵ ص ۶۵۲)

دوسرا قول: مکتوبات مجدد میں نبی کا لفظ ہے:

”جیسا کہ مجدد صاحب سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے لیکن جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۳۹۰، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶)

تجزیہ: مرزا صاحب نے پہلا حوالہ مکتوبات امام ربانی کا صحیح دیا ہے لیکن جب دعویٰ نبوت کیا تو اس حوالہ میں رد بدل کر کے نبی کا لفظ لکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔

(۴۷) پہلا قول: رسول اور امتی کے لفظ میں تضاد ہے:

”اس جگہ سے بڑے شبہات یہ پیش آتے ہیں کہ جس حالت میں مسیح ابن مریم اپنے نزول کے وقت کامل طور پر امتی ہوگا تو پھر باوجود امتی ہونے کے کسی طرح سے رسول نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اور امتی کا مفہوم متباہن ہے اور نیز خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانع ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۱۰)

دوسرا قول: (الف) مرزا کا دعویٰ رسالت:

”ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔“

(اخبار بدرہ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء، بحوالہ انوار العلوم ج ۲ ص ۵۲۷)

(ب) امتی اور نبی ہونے کا دعویٰ:

”پس میرا نام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے یہ ظاہر کیا گیا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی۔“ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۹، روحانی خزائن ج ۲ ص ۳۶۱)

(۴۸) پہلا قول: نبوت بند ہے:

”اور ہمارا دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں اور قرآن مجید کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں اور حضرت محمد کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔“ (انجام آتھم ص ۱۴۳، روحانی خزائن جلد ۱۱ ص ۱۴۳)

دوسرا قول: مرزا کی وحی، دعویٰ نبوت:

”إِنَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إِلَى قَوْمِهِ“

”ہم نے احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۲۲، روحانی خزائن ج ۱ ص ۷۰)

(۴۹) پہلا قول: ہر قسم کی نبوت بند ہے:

”کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اگر قرآن پر اس کا ایمان ہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بعد خاتم الانبیاء کے میں بھی نبی ہوں۔“

(انجام آتھم حاشیہ ص ۲۷، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۷)

دوسرا قول: غلطی، بروزی نبوت جاری ہے:

”اگر بروزی معنوں کے رو سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کے رو سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۰۹)

(۵۰) پہلا قول: محدثیت کا دعویٰ:

”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا کے حکم سے کیا گیا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۲۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۲۰)

دوسرا قول: نبوت کا دعویٰ:

”اگر غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتاؤ وہ کس نام سے پکارا جائے، اگر کہو اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت میں اظہار غیب کے نہیں۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۰۹)

(۵۱) پہلا قول: امت محمدیہ میں کئی افراد نبی بنے:

”پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا کیونکہ ایسی صورت کی نبوت، نبوت محمدیہ سے الگ نہیں بلکہ اگر غور سے دیکھو تو وہ خود وہ نبوت محمدیہ ہی ہے جو ایک پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہوئی۔“

(الوصیت ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۱۲)

دوسرا قول: امت محمدیہ میں صرف مرزا ہی نبی بنا:

”اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ و مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بار نبوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور قطاب اس امت میں سے گزرے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں نہیں پائی جاتی۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶-۴۰۷)

(۵۲) پہلا قول: محدث نبی ہوتا ہے:

”محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے مگر وہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدیہ کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اپنی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ اپنے نبی کے طفیل سے علم پاتا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۵۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۱۶)

دوسرا قول: محدث نبی نہیں ہوتا:

”کبھی یہ ہم کلامی کا مرتبہ بعض ایسے مکمل لوگوں کو ملتا ہے کہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کے متبع ہیں اور جو شخص کثرت سے شرف ہم کلامی کا پاتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۹۱۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۶۰۱)

(۵۳) پہلا قول: حضور علیہ السلام کے بعد نزول وحی کا انکار:

”اور بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا بقیامت منقطع ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۶۱۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۳۲)

”قرآن شریف..... ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت ولکم رسول اللہ و خاتم النبیین میں صریح نبوت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تم الانبیاء ہیں۔“

(تحفہ گولڑویہ ص ۵۱، روحانی خزائن ج ۷ ص ۱۷۷)

دوسرا قول: حضور علیہ السلام کے بعد نزول وحی کا اقرار:

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیے وحی بھیجے خواہ وہ رسول ہو یا غیر رسول اور جس سے چاہے کلام کرے خواہ نبی ہو یا محدثوں میں سے ہو۔“ (تحفہ بغداد حاشیہ ص ۱۷، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۱)

مسیح ابن مریم ہونے کا اقرار و انکار

(۵۴) پہلا قول: مرزا کے علاوہ دس ہزار مسیح آسکتے ہیں:

”میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل مسیح آجائیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۱۹۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

دوسرا قول: مرزا کے علاوہ کوئی مسیح نہیں:

”پس اب قیامت تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مسیح موعود ہوں کیونکہ اب مسیح موعود کی پیدائش اور اس کے ظہور کا وقت گزر گیا۔“

(تختہ گولڑویہ ص ۹۵، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۵۲)

(۵۵) پہلا قول: دس برس دعویٰ نہیں کیا:

”اور اللہ کی قسم میں بہت مدت سے جانتا تھا کہ میں مسیح ابن مریم بنایا گیا ہوں اور میں اس کی جگہ اترنے والا ہوں..... لیکن میں نے اس کے اظہار میں دس برس توقف کیا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۵۱، روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۵۱)

دوسرا قول: بارہ برس تک دعویٰ نہیں کیا:

”پھر میں قریباً بارہ برس تک جو زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر جمار ہا جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے تب تو اتر سے اس بارہ

میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔“

(اعجاز احمدی ص ۷، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

تجزیہ: مرزا صاحب کا یہ تضاد و تضادات کا مجموعہ ہے۔

(۱) ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے مسیح موعود ہونے کا علم تھا اور دوسری جگہ لکھا کہ علم نہ تھا۔

(۲) پہلا دعویٰ دس برس کا اور دوسرا بارہ برس کا جو کہ بغیر دعویٰ گزرا۔

ہم اپنے نقطہ نظر سے قطع نظر کرتے ہوئے (کہ ہمارے نزدیک مرزا صاحب کی چاروں باتیں غلط ہیں) قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک مرزا صاحب کی کون سے بات صحیح اور کون سے غلط ہے؟

(۵۶) پہلا قول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ:

”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۴۸، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

(نوٹ) یہی مضمون دافع البلاء ص ۱۳ روحانی خزائن ج ۲۳۳ جلد ۱۸ پر بھی ہے)

دوسرے اقوال: برابری کا دعویٰ:

(الف) ”اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ابن مریم آخری خلیفہ موسیٰ

علیہ السلام کا ہے اور میں آخری خلیفہ اسی نبی کا ہوں جو خیر الرسل ہے اس لئے خدا نے چاہا کہ مجھے اس سے کم نہ رکھے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴)

(ب) کلی فضیلت کا انکار:

”اس جگہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے کو حضرت مسیح پر فضیلت دی

ہے کیونکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔“

(تریاق القلوب ص ۱۵۷، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۴۸۱)

(۵۷) پہلا قول: مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ:

”اے برادرانِ دین و علماء شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے لئے مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۹۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

دوسرا قول: عین مسیح ہونے کا دعویٰ:

”واضح ہو کہ وہ مسیح موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث صحیحہ کی رو سے ضروری طور پر قرار پا چکا تھا وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا اور آج وہ وعدہ پورا ہو گیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۱۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۱۵)

مرزا کی وجی:

”ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا۔ ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔“ (ازالہ اوہام صفحہ ۶۳۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۴۲)

(۵۸) پہلا قول: مرزا کے دعویٰ کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے:

”پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کی پیشگوئی کا خیال کیوں دل میں آیا آ کر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتیں یہ سادہ لوح یا تو افتراء سے ایسا کہتے ہیں اور یا محض حماقت سے اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے

ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔“ (اعجاز احمدی ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۱۴۰)

دوسرا قول: مرزا کے دعویٰ کی بنیاد حدیث پر ہے:

”سواب اٹھو اور مباہلہ کے لئے تیار ہو جاؤ تم سن چکے ہو کہ میرا دعویٰ دو باتوں پر مبنی تھا اول نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ پر دوسرے الہامات الہیہ پر۔“ (انجام آتھم ص ۶۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۵)

(۵۹) پہلا قول:

”خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ آنے والا مسیح دراصل مسیح ابن مریم نہیں ہے بلکہ اس کا مثیل ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۴۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۷۸)

دوسرا قول: عین مسیح ہونے کا دعویٰ:

”وہ مسیح موعود جس کے آنے کا قرآن کریم میں وعدہ دیا گیا ہے۔ یہ عاجز ہی ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۸۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۶۸)

(۶۰) پہلا قول: مسیح نبی نہیں ہوگا:

”اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح بھی نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لئے ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔“

(توضیح المرام ۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۹)

دوسرا قول: مسیح نبی ہوگا:

”میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا

ہے اور اس کو سلام کہا ہے۔“ (نزول المسیح ص ۲۸، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۲۷)

(۶۱) پہلا قول: حضرت عیسیٰ مسیح غفری زمین پر اتریں گے:

”یا حسرة علیہم الایعلمون ان المسیح ینزل من السماء

بجميع علومه ولا یأخذ شیئا من الارض مالهم لایشعرون.“

(ترجمہ) ”ہائے افسوس! کیا لوگ نہیں جانتے کہ مسیح آسمان سے تمام علوم کے ساتھ اترے گا اور وہ زمین سے کچھ نہ لے گا انہیں کیا ہوا کہ وہ نہیں جانتے۔“ (آئینہ کمالات اسلام ۴۰۹، روحانی خزائن ج ۵ ص ۴۰۹)

دوسرا قول:

”فاخبرنی ربی ان النزول روحانی لا جسمانی.“

”پس میرے پروردگار نے مجھے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا نزول روحانی طور پر ہوگا نہ کہ جسمانی طور پر۔“

(آئینہ کمالات اسلام ۵۵۳، روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۵۳)

(۶۲) پہلا قول: مسیح ابن مریمؑ مرزا کے بعد آئیں گے:

”میں اس بات کو تو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی رو سے وہ موعود بھی ہو۔“

(ازالہ ابہام ص ۴۸۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۶۲)

دوسرا قول: مرزا ہی مسیح موعود ہے:

”جس وجہ نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آنے والا مسیح موعود یہی عاجز ہے اس پر میں ایسا ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ

میں قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ۱۲۹ روحانی خزائن جلد ۲۱ ص ۲۹۶)

(۶۳) پہلا قول: مرزا مسیح موعود ہے:

”اب جو امر خدا تعالیٰ نے میرے پر منکشف کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح

موعود میں ہی ہوں۔“ (ازالہ ابہام ص ۳۸-۳۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۲۲)

دوسرا قول: مرزا مثیل مسیح ہے:

”میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں وہ سراسر مفتری

اور کذاب ہے بلکہ میری طرف سے عرصہ سات یا آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل مسیح ہوں۔“

(ازالہ ابہام ۱۹۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

”میں اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے

براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر جمار ہا جب بارہ برس گزر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے تب تو اتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح

موعود ہے۔“ (اعجاز احمدی ص ۷، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

(۶۴) پہلا قول: مرزا کو عین مسیح کہنا قرآن کی تکذیب ہے:

”قرآن شریف فرماتا ہے کہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کا عین نہیں ہیں

کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اسلام کے مسیح موعود کو موسوی مسیح کا مثیل ٹھہراتا ہے نہ عین پس محمدی مسیح موعود کو موسوی مسیح کا عین قرار دینا قرآن

شریف کی تکذیب ہے۔“ (تھنہ گولڈ ویس ۶۳، روحانی خزائن ج ۷ ص ۱۹۳)

دوسرا قول: عین مسیح ہونے کا دعویٰ:

(الف) ”پیشک میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں۔“

(اعجاز المسیح ص ۶، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۸)

(ب) ”مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر

افترا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۶، خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۰)

تیسری فصل:

مہدی ہونے کا اقرار و انکار

(۶۵) پہلا قول: حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ

”میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہلبیت میں سے ہیں اور حضرت فاطمہؑ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۹، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۱۳)

دوسرا قول: حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے ہونے کی نفی:

”میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من و لد فاطمة ومن عترتی وغیرہ ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۵، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۶)

تجزیہ: مرزا صاحب قول اول میں خود کو سید اور اہل بیت میں سے ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جبکہ قول ثانی میں اپنے سید ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔
جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی

(۶۶) پہلا قول: امام مہدی کے متعلق حدیثوں کی صحت کا انکار:

”میرا عقیدہ اور میری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثیں جو امام مہدی کے آنے کے بارہ میں ہیں ہرگز قابل وثوق و قابل اعتبار نہیں ہیں۔“
(حقیقۃ المہدی ص ۳، روحانی خزائن ج ۱۴ ص ۴۲۹)



دوسرا قول: مہدی کے بارے میں حدیث معتبر ہونے کا اقرار:

”اور یہ حدیث کی کئی کتابوں سے بھی کھل گیا کہ یہ ایک پیش گوئی تھی کہ مہدی کی شہادت کے لئے اس کے ظہور کے وقت میں خسوف و کسوف ہوگا۔“
(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۸، روحانی خزائن ج ۷ ص ۴۸)

(۶۷) پہلا قول: صحاح ستہ میں کئی مہدیوں کا ذکر ہے:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہدیوں کی خبر دیتے ہیں منجملہ ان کے وہ مہدی بھی ہیں جس کا نام حدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا جبکہ ظہور ممالک مشرقیہ ہندوستان وغیرہ سے اور اصل وطن فارس سے ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل ثابت شدہ اور یقینی ہے کہ صحاح ستہ میں کئی کئی مہدیوں کا ذکر ہے۔“
(نشان آسانی ص ۱۰، روحانی خزائن ج ۴ ص ۳۷۰)

دوسرا قول: مہدی کے متعلق تمام حدیثیں ضعیف ہیں:

”پھر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ احادیث جن میں جنگ کرنے والے مہدی کا ذکر ہے جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہوگا ایسی تمام احادیث ضعیف، مجروح موضوع اور افتراءئی ہیں۔“

(ہقیقۃ المہدی ص ۲۹، روحانی خزائن ج ۴ ص ۱۴۵)

نوٹ: اسی طرح کی عبارت کشف الغطاء ص ۱۲ روحانی خزائن ص ۱۹۳ جلد ۴ پر بھی درج ہے۔

(۶۸) پہلا قول: مہدی کے بارے میں حدیث صحیح ہے:

”حدیث صحیح میں آچکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے تین سوتیرہ اصحاب کا نام درج ہوگا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۴۰، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۳۲۴)

دوسرا قول: مہدی کے بارے میں تمام حدیثیں مجروح ہیں:

”مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں اور جس قدر افتراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور حدیث میں نہیں ہوا۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۵، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۶)

(۶۹) پہلا قول: مہدی کے متعلق عقیدہ بے بنیاد ہے:

”جماعت کا یہ مذہب ہے کہ امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخری زمانہ میں انہی کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ (ازالہ وہام ص ۴۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۴۴)

دوسرا قول: مہدی کے بارے میں حدیث میں بشارت ہے:

”وہ آخری مہدی جو منزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی مائدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا جس کی بشارت آج سے تیرہ سو برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ میں ہی ہوں۔“ (تذکرہ الشہادتین ص ۲، روحانی خزائن ج ۲ ص ۳-۴)

(۷۰) پہلا قول: صحیح بخاری میں مہدی کا ذکر نہیں ہے:

”ایسا ہی مہدی کے بارہ میں جو بیان کیا جاتا ہے کہ ضرور ہے کہ پہلے امام محمد آویں اور بعد اس کے ظہور مسیح ابن مریم کا ہو، یہ خیال قلت تدبیر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اگر مہدی کا آنا مسیح ابن مریم کے زمانہ کے لئے ایک لازم غیر منفک ہوتا اور مسیح کے سلسلہ ظہور میں داخل ہوتا تو دو بزرگ شیخ اور امام حدیث کے یعنی حضرت محمد اسماعیل صاحب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم صاحب صحیح مسلم

اپنے صحیفوں سے اس واقع کو خارج نہ رکھتے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۱۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۷۸)

دوسرا قول: صحیح بخاری میں مہدی کا ذکر ہے:

”اگر حدیثوں کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجے بڑھی ہوئی ہے مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے۔ خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ هذا خلیفة الله المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ یا کس مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔“

(شہادۃ القرآن ص ۴۱، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۳۷)

☆☆☆

چوتھا باب:

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق تضادات

(۷۱) پہلا قول: اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کر سکتا:

”خدا سہوا اور غلطی سے پاک ہے۔“

(حقیقۃ الوحی حاشیہ ص ۷۸، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۸۱)

دوسرا قول: اس کے خلاف (مرزا کو خدائی الہام:

”انسی مع الاسباب اتیک بغتۃ انی مع الرسول احیب

اخطی واصیب انی مع الرسول محیط۔“

ترجمہ: ”میں اسباب کے پاس اچانک تیرے پاس آؤں گا۔ خطا

کروں گا اور بھلائی کروں گا میں اپنے رسول کے ساتھ محیط ہوں۔“

(البشری جلد دوم ص ۷۹، حقیقۃ الوحی ص ۱۰۳، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۶)

(۷۲) پہلا قول: کوئی بشر موت و حیات کا مالک نہیں ہے:

”اب دیکھو خدائے تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ..... کوئی شخص موت

و حیات اور ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہو سکتا۔“

(ازالہ اوہام حاشیہ ص ۳۱۵، روحانی خزائن ج ۲۶ ص ۲۶۰)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”وَأُعْطِیْتُ صِفَةَ الْإِفْنَاءِ وَالْإِحْيَاءِ مِنَ الرَّبِّ الْفَعَالِ۔“

ترجمہ: ”اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے اور

یہ صفت خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۳، روحانی خزائن ج ۱۶ ص ۵۵-۵۶)

(۷۳) پہلا قول: خدا اور نبی جدا جدا ہیں:

”پس خدا اور نبی کا الگ الگ ہونا ضروری ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۸۰، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۵۰)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”خداوند سے مراد ظلی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ وہ

مظہر اتم الوہیت اور درجہ سوم قرب پر ہیں۔“

(سرمد چشم آریہ ص ۲۳۵، روحانی خزائن ج ۲ ص ۲۸۳)

تجزیہ: مرزا نے پہلے قول میں اعلان کیا کہ خالق و مخلوق میں فرق ضروری ہے اور دوسرے قول میں عملاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے متحد و جزو مان لیا۔

(۷۴) پہلا قول: اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے:

(الف) ”خدا تعالیٰ سب کا خالق ہے اور وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔“

(ملفوظات حصہ سوم ص ۳۸۸)

(ب) ”اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے۔“

(لیکچر سیا لکھٹ ص ۸، روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۱۵۴)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو یقین نیا ہونشان نئے ہوں۔“

(ضمیمہ تریاق القلوب، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۴۹۷)

تجزیہ: مرزا نبیوں کو نیا خدا مبارک ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہی نیا خدا مرزا کی طرف وحی بھیجتا تھا اور کبھی کبھی مرزا سے اظہار رجولیت بھی کر لیتا تھا۔

(۷۵) پہلا قول: اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے:

”ان لوگوں نے ناحق اپنے دل سے خدا کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تراش

رکھی ہیں اور نہیں جانتے کہ ابن مریم ایک عاجز انسان تھا۔“

(دافع البلاء ص ۲۰، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

دوسرا قول: اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ:

مرزا صاحب کے الہامات:

(الف) ”انت منی بمنزلہ اولادی۔“

”تو میرے لئے بمنزلہ اولاد ہے۔“

(البعین ص ۱۹، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۴۵۲)

(ب) ”اسمع یا ولدی۔“

”(اے میرے بیٹے سن)“

(البشری جلد اول ص ۴۹)

(۷۶) پہلا قول: خدا ہونے کا دعویٰ:

”اور میں نے خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں

نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں..... میں اس حالت میں کہہ رہا تھا ہم ایک نیا

نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین بنانا چاہتے ہیں پس میں نے آسمان و زمین پیدا

کئے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۴-۵۶۵، روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۶۴-۵۶۵)

دوسرا قول: خدا کی مانند ہونے کا دعویٰ:

”دانیل نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے اور عبرانی میں

لفظی معنی میکائیل کے ہیں خدا کی مانند۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڈ ویہ حاشیہ ص ۱۶، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۶۱)

(۷۷) پہلا قول: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے:

”خدا تعالیٰ اپنی ہر ایک صفت میں وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات

الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

(ازالہ اوہام ص ۳۱۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۹)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”جس پر خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہو وہ اپنی نہایت محویت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی توحید کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور پھر رنگ دوئی اس سے جاتا رہتا ہے۔“ (ہقیقۃ الوحی ۱۶۶، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۷۰)

(۷۸) پہلا قول: خدائی قانون نہیں بدل سکتا:

”خدا تعالیٰ کا قانون ہرگز بدل نہیں سکتا۔“

(کرامات الصادقین ص ۸، روحانی خزائن ج ۷ ص ۵۰)

دوسرا قول: قانون الہی بدل جاتا ہے:

”خدائی قانون بدل سکتا ہے۔“

(خلاصہ عبارت چشمہ معرفت ص ۹۶، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۱۰۴)

(۷۹) پہلا قول: مرزا کے لڑکے کے متعلق خدا ہونے کا دعویٰ:

”ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جن کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا

گویا آسمان سے خدا اترے گا۔“ (ہقیقۃ الوحی ص ۹۵، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۹۸)

دوسرا قول: مرزا کے بیٹے کے متعلق خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ:

”بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع

پائے مگر خدا تعالیٰ مجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے تجھ میں

حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بہ منزلہ اطفال اللہ کے ہے۔“

(تمتہ ہقیقۃ الوحی ص ۱۲۳، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۸۱)

تجزیہ: مرزا صاحب نے پہلے لکھا کہ میرا لڑکا معاذ اللہ خود خدا ہوگا اور ثانیاً لکھا کہ وہ خدا

کا بیٹا ہوگا۔ حالانکہ دونوں باتیں ہی سفید جھوٹ اور موجب کفر ہیں۔

(۸۰) پہلا قول: اللہ تعالیٰ کی دنیوی اشیاء کے ساتھ تشبیہ:

”اس بیان میں مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے لئے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تندوی کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے۔“

(توضیح مرام ص ۷۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۹۰)

دوسرا قول: کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہے:

”اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ قرار دے۔ یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا سنتا، سنا تا جانتا بولتا کلام کرتا ہے اور پھر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے

لیس کمثلہ شیئی، فلا تضربوا اللہ الامثال۔ یعنی خدا کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے لئے مخلوق سے مثالیں مت دو۔“

(اسلامی اصولوں کی فلاسفی ص ۶۲، روحانی خزائن ج ۱ ص ۳۷۶)

(۸۱) پہلا قول: خدائی دعویٰ کرنے والا سب سے بدتر ہے:

”آپ نہیں جانتے کہ ہمارے نزدیک وہ نادان ہر ایک زنا کار سے بدتر ہے

جو انسان کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔“

(نور القرآن حصہ دوم ص ۱۹، روحانی خزائن ج ۹ ص ۳۹۴)

دوسرا قول: مرزا کا خدائی دعویٰ:

”میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں..... اور اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔“ (کتاب البریہ ص ۸۵، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۰۳)

(۸۲): مرزا کا قول:

”وہی وحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں۔“
(الوصیت ص ۹ روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۳۰۹)

دوسرا قول:

”حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔“ (اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر ۳۴ ص ۱۲، از قاضی محمد یار قادریانی)



پانچواں باب:

انبیاء کرام خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق تضادات

(۸۳) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لطیف ہے:

نور شاں یک عالمے را در گرفت
تو هنوز اے کور در شور و شر
لعل تاباں را اگر کوئی کثیف
زیر چہ کاہد قدر روشن جوہرے

(دیباچہ براہین احمدیہ ۱۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۳)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”اس جگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاکی کا آسمان جانا محالات میں ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسم کے ساتھ کیونکر جائز ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔“

(ازالہ اوہام حاشیہ ص ۴۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

فائدہ: مرزا نے اگرچہ مذکورہ حوالہ میں معراج کو کشف قرار دیا ہے لیکن ازالہ اوہام میں ہی ایک دوسرے مقام پر اسے حقیقی واقعہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع جسمی کے بارہ میں وہ جسم سمیت شب معراج میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے تقریباً تمام صحابہ کا یہی

اعتقاد تھا۔“ (ازالہ ابہام ص ۲۸۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۴۷)

(۸۴) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الوہیت میں شریک ہیں:

”اور کئی مقام پر قرآن شریف میں ارشادات و تصریحات سے بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اتم الوہیت ہیں اور ان کا کلام خدا کا کلام اور ان کا ظہور خدا کا ظہور اور ان کا آنا خدا کا آنا ہے۔“

(سرمد چشم آریص ۲۲۹، روحانی خزائن ج ۲ ص ۲۷۷)

دوسرا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں:

”تاریخ کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا تھا اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا۔“

(پیغام صلح ۳۸، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۶۴۵)

(۸۵) پہلا قول: تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں:

”اور تحقیق آپ صحاح میں پڑھ چکے ہیں کہ بیشک مسیح اپنے فوت شدہ بھائیوں سے جا ملے اور اپنے بھائی حضرت یحییٰ کے پاس جگہ پائی۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۴۳۱، روحانی خزائن ج ۵ ص ۴۳۱)

دوسرا قول: تمام انبیاء زندہ ہیں:

”اور ان بے تمیزوں نے یہ نہیں سمجھا کہ انبیاء تو سب زندہ ہیں مردہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی لاش نظر نہیں آئی سب زندہ تھے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۶۱۰، روحانی خزائن ج ۵ ص ۶۱۰)

(۸۶) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہ تھا:

”دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے ہاں ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہیں ہوا۔“ (ملفوظات جلد ششم ص ۵۷)

دوسرا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ لڑکے تھے:

”تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔“

(چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۲۸۶، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۹۹)

فائدہ: تجلیات الہیہ ص ۳۰ روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۴۱۴ پر بھی یہی مضمون ہے۔

(۸۷) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے افضل ہیں:

”اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قریب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطا یا اور نعماء جو آپ کو دیئے گئے سب سے بڑھ کر ہیں اور جو اسرار آپ پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔“

(ملفوظات جلد سوم ص ۲۴۲، ملفوظات ج پنجم ص ۲۹)

دوسرا قول: حضور علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ:

مرزا صاحب کا دعویٰ و اعتقاد:

”مرزا صاحب کو الہام ہوا ”واتانی مالاً یؤت احداً من العالمین۔ مجھ کو وہ چیز دی گئی جو کہ دنیا و آخرت میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں دی گئی۔“ (الاستفتاء ضمیمہ ھقیقۃ الوحی ص ۸۷، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵)

تجزیہ: قول اول میں مرزا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کائنات پر فضیلت کا بجا

طور پر دعویٰ کیا لیکن قول ثانی میں اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی العیاذ باللہ اعلیٰ قرار دیا۔

(۸۸) پہلا قول: نبی کی تحقیر کفر ہے:

”اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔“

(ضمیمہ چشمہ معرفت ۱۸-۱۹، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۹۰)

دوسرا قول:

(الف) ”حضرت نوح علیہ السلام کی توہین، خدا تعالیٰ میرے لئے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔“

(تمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۷، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۵)

(ب) حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین:

”پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔“ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۹، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۹۹)

(۸۹) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں کیا:

”جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیش گوئی کے آپ پر نہ کھولے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی خاص شق کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۰۶، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۱۰)

دوسرا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دلیل کے کئی دعوے کئے:

”اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور

دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی اور نہ دجال کے ستر باع کے گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو اور نہ یا جوج ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو۔ اور نہ دابة الارض کی ماہیت کماہی ہی ظاہر فرمائی گئی ہو تو..... کچھ

تعجب کی بات نہیں۔“ (ازالہ اوہام ۶۹۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۷۳)

(۹۰) پہلا قول: نبی کی تحقیر بڑا جرم ہے:

”کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب غضب

الہی ہے۔“ (چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۳۹۰)

دوسرا قول: انبیاء کرام کی مجموعی توہین:

”یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بے باعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے یہ ابتلاء آیا کہ جن راہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے ان راہوں سے وہ نبی نہیں رہے بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آگئے۔“

(نزول المسیح حاشیہ ص ۳۵، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۱۳)

(۹۱) پہلا قول: حضرت موسیٰؑ کی روح سے شب معراج کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی:

”ایسا ہی حضرت بخاری صاحب نے اپنی صحیح میں معراج کی حدیث میں جو ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا حال دوسرے انبیاء سے آسمانوں پر لکھا ہے تو اس جگہ حضرت عیسیٰؑ کا کوئی خاص طور پر مجسم ہونا ہرگز بیان نہیں کیا بلکہ جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰؑ کی روح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر کیا ہے ایسا ہی بغیر ایک ذرہ فرق کے حضرت عیسیٰؑ کی روح سے ملاقات ہونا بیان کیا ہے بلکہ حضرت موسیٰؑ کی روح کا کھلے کھلے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا مفصل طور پر

لکھا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۹۷-۹۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۵۳-۱۵۴)
دوسرا قول: حضرت موسیٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جسمانی طور پر تھی:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے ملے تھے اور مردے زندوں سے نہیں ملا کرتے۔“

(ترجمہ حیات البشر ص ۵۵، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۲۱)

☆☆☆

چھٹا باب:

قرآن مجید، دیگر آسمانی کتب، وحی الہی اور الہامات کے متعلق تضادات

(۹۲) پہلا قول: سچا الہام پر لطف ہوتا ہے:

”سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر ڈھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔“

(ضرورۃ الامام ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۸۹)

دوسرا قول: مرزا صاحب کے بے لطف الہامات:

- (م) مُعَمَّرُ اللّٰہ (تذکرہ ۲۷۵)
 (ر) مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص تنافس کی ذلت اور اہانت اور ملامت خلق
 (تذکرہ ۳۱۳)
 (ز) غنم غنم لہ دفع الیہ من مالہ دفعة (تذکرہ ۳۲۵)
 (ا) السَّهِيلُ الْبَدْرِيُّ (تذکرہ ۳۳۲)
 (م) پہلے بیہوشی پھر غشی پھر موت۔ (تذکرہ ۳۴۳)
 (ر) مبارک (تذکرہ ۳۵۹)
 (د) بعد ۱۱- انشاء اللہ (تذکرہ ۴۱۳)
 (ہ) السلام علیکم (تذکرہ ۴۲۰)
 (ب) اس کتے کا آخری دم ہے۔ (تذکرہ ۴۳۱)

(۱) افسوس صد افسوس (تذکرہ ۴۳۳)

(د) ہے کرشن رودر گوپال تیری مہما ہو (تذکرہ ۴۳۴)

(۹۳) پہلا قول: نامعلوم زبانوں میں مرزائی الہامات:

”مگر اس سے زیادہ تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں ہے جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“

(نزول المسیح ۵۷، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۳۵)

دوسرا قول: مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان میں الہام بے ہودہ بات ہے:

”اور یہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۰۹، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

(۹۴) پہلا قول: انبیاء کی وحی شیطانی اثرات سے پاک ہوتی ہے:

”اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے گو اس لئے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دخل شیطان سے منزع کیا جاتا ہے۔“

(توضیح مرام ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۶۰)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”سو ایسا ہی روحانی طور پر شیطان نے یسوع کے دل میں اپنا کلام ڈالا یسوع نے اس شیطانی کو قبول نہ کیا..... بائبل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چار سو

نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا۔

(ضرورت الامام ص ۱۷، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۴۸۷)

(۹۵) پہلا قول: قرآن مجید اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم دیتا ہے:

”لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن کا ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کا ہے جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔“ (ملفوظات احمدیہ، ج ۲ ص ۱۷۲)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”اگر ہر ایک سخت اور آزدہ تقریر کو محض بوجہ اس کے مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن شریف گالیوں سے پر ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۳-۱۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۰۹)

(۹۶) پہلا قول: نبی کی وحی میں غلطی ہو سکتی ہے:

”اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی درحقیقت وحی کی غلطی ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۵۳، روحانی خزائن ج ۵ ص ۳۵۳)

دوسرا قول: وحی میں غلطی نہیں ہو سکتی:

”مگر خدا کی وحی میں غلطی نہیں ہوتی ہاں اس کے سمجھنے میں اگر احکام شریعت کے متعلق نہ ہو کسی نبی سے غلطی ہو سکتی ہے۔“

(تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۵، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۳)

(۹۷) پہلا قول: وحی صرف حضرت جبرائیل کے ذریعہ آتی ہے:

”اور رسولوں کی تعلیم اور اعلام کے لیے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جو وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام

رحمانی کے سکھائی جاتی ہیں۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۸۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۱۵)

دوسرا قول: مرزا صاحب پر وحی لانے والے فرشتے:

(۱) ٹیچی ٹیچی (حقیقۃ الوحی ۳۳۲، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۳۴۶)

(۲) مٹھن لال (تذکرہ، طبع دوم ص ۵۵۶)

(۳) درشنی (مکاشفات، ص ۳۱)

(۴) خیراتی (تریاق القلوب ص ۱۹۲، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۳۵۱-۳۵۲)

(۵) شیرعلی (ایضاً بحوالہ مذکورہ)

(۹۸) پہلا قول: قرآن مجید میں قادیان کا نام نہیں ہے:

”کسی کتاب حدیث یا قرآن شریف میں قادیان کا نام لکھا ہوا نہیں پایا

جاتا۔“ (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۷۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۳۹)

دوسرا قول: قرآن مجید میں قادیان کا نام درج ہے:

”تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔

مکہ اور مدینہ اور قادیان۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۶-۷۷ حاشیہ، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۴۰)

(۹۹) پہلا قول: آیات میں قطع برید شرا تئوں کا کام ہے:

”یہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کرنا

تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بد معاش اور گندے کہلاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت حصہ دوم ص ۱۹۵، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴)

(نزول المسیح ص ۴۲ روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۱۲ پر بھی یہی مضمون ہے)

دوسرا قول: مرزا کی چند معنوی تحریفات:

(۱) ”هو المذی ارسل رسولہ بالهدی“

اس جگہ رسول سے مراد یہ عاجز ہے۔

(ایام الصلح ص ۷۵، روحانی خزائن ج ۱۴ ص ۳۰۹)

(۲) ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء

بینہم۔“

”اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔“

(ایک غلطی کا ازالہ، ص ۳۳ روحانی خزائن جلد ۱۸ ص ۲۰۷)

(۱۰۰) پہلا قول: شیطانی الہام بے لذت ہوتا ہے:

”شیطان گونگا ہے اور اپنی زبان میں فصاحت اور روانگی نہیں رکھتا اور

گونگے کی طرح وہ فصیح اور کثیر المقدار باتوں پر قادر نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک

دوبد بودار پیرایہ میں فقرہ در فقرہ دل میں ڈال دیتا ہے اس کو ازل سے یہ توفیق

ہی نہیں دی گئی کہ لذیذ اور باشوکت کلام کر سکے۔ اور نہ وہ بہت دیر تک چل سکتا

ہے گویا جلدی تھک جاتا ہے۔“

(حقیقۃ الوحی ۱۳۹-۱۴۰، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۴۲ تا ۱۴۴)

دوسرا قول: مرزا کے بے لذت الہامات:

(۱) اصبر سنفرغ یا مرزا (تذکرہ ص ۱۳۳)

(۲) بکروثیب (تذکرہ ص ۳۹)

(۳) عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان (تذکرہ ص ۴۱)

(۴) آئی لَوُیُو (تذکرہ ص ۶۴)

(۵) لیس آئی ایم پی (تذکرہ ص ۶۶)

(۶) لائف آف پین (تذکرہ ۶۶)

(۷) ر بناعاج۔ (تذکرہ ۱۰۵)

ہمارا رب عاجی ہے اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔

(تذکرہ ۱۰۵)

(۸) هو شعنا نعسا یہ دونوں فقرے عبرانی ہیں اور ان کے معنی

ابھی تک اس عاجز پہ نہیں کھلے۔ (تذکرہ ۱۰۶)

(۹) بست ویک آئے ہیں۔ (تذکرہ ۱۱۵)

(۱۰) پریشن۔ عمر براطوس یا پلاطوس یعنی براطوس لفظ ہے یا پلاطوس

لفظ باعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ (تذکرہ ۱۲۰)

(۱۰۱) پہلا قول: تورات انجیل وغیرہ محرف نہیں ہیں:

”اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں ان کا بیان قابل اعتبار نہیں ایسی

بات وہ ہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے۔“

(چشمہ معرفت حاشیہ ص ۷۵، روحانی خزائن ج ۲۳-۲۴)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”وہ کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک رومی کی طرح ہو چکی

تھی اور بہت جھوٹ ان میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کئی جگہ قرآن شریف میں

فرمایا گیا ہے وہ کتابیں محرف مبدل ہیں۔“

(چشمہ معرفت ۲۵۵، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۶)

☆☆☆

ساتواں باب:

صحابہ کرامؓ کے متعلق تضادات

(۱۰۲) پہلا قول: صحابہ کرامؓ کی تعریف:

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ فضیلت میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اعلیٰ درجہ کی جماعت تیار کی میرا دعویٰ ہے کہ ایسی جماعت آدم سے لے کر آخر تک کسی کو نہیں ملی۔“

(ملفوظات ج ہشتم ص ۲۹۳)

دوسرا قول: صحابہ کرامؓ کی توہین:

(الف) ”بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۲۰، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۸۵)

(ب) ”بعض ایک دو سمجھ صحابہ جن کی درایت عمدہ نہ تھی۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۶-۱۲۷)

(۱۰۳) پہلا قول: صحابہ کرامؓ کی تعریف:

”صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا

ہے۔ (ملفوظات، جلد اول ص ۴۳)

دوسرا قول: صحابہ کرامؓ کی توہین:

(الف) ”ابو ہریرہ جو نجی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۷)

نوٹ: ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۳۲ رخ جلد ۲۱ ص ۴۱۰ پر بھی یہی مضمون ہے۔

(ب) ”حق تو یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا۔“

(ازالہ ابہام ص ۵۹۶، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۲۲)

(۱۰۴) پہلا قول: حضرت حسینؑ کی اہانت بدبختی اور بے ایمانی کی نشانی ہے:

”غرض یہ امر نہایت درجہ کی شقاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسینؑ کی تحقیر کی جائے۔“
(مجموعہ اشتہارات، جلد سوم ص ۵۴۵)

دوسرا قول: مرزا کی طرف سے حضرت حسینؑ کی توہین:

(الف)

کر بلائیست سیر ہر آنم

صد حسین است در گریبانم

ترجمہ: ”میں ہر وقت کر بلا کی سیر کرتا رہتا ہوں سو حسینؑ میری گریبان میں ہے۔“
(نزول المسیح ص ۹۹، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۷۷)

☆☆☆

آٹھواں باب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذاتی

حالات کے متعلق تضادات

(۱۰۵) پہلا قول: قرآن مجید میں یسوع کا ذکر نہیں ہے:

”خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن مجید میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۹، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۳)

دوسرا قول: قرآن مجید میں یسوع کا ذکر ہے:

”خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدا کی مثال بیان کرنے کے وقت آدم کو ہی

پیش کیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے ’ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم‘۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۱۸، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۲۷)

(نوٹ) نصرۃ الحق ص ۳۹ روحانی خزائن ص ۵۰ جلد ۲۱ پر بھی یہی مضمون ہے۔

(۱۰۶) پہلا قول: حضرت مسیحؑ کا والد یوسف نجار تھا:

”حضرت مسیحؑ ابن مریم اپنے باپ یوسف نجار کے ساتھ ۲۲ برس تک

نجاری کا کام بھی کرتے رہے۔“

(ازالہ وہام ص ۳۰۳، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۴)

نوٹ: چشمہ مسیحی ص ۲۶، روحانی خزائن ص ۳۵۶ جلد ۲۰ پر بھی یہی مضمون ہے۔

دوسرا قول: حضرت عیسیٰؑ کا کوئی والد نہ تھا:

”خدا نے مسیحؑ کو بن باپ پیدا کیا۔“
(البشری ج ۲ ص ۶۸)

نوٹ: براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۲۲۱ روحانی خزائن صفحہ ۳۹۸ جلد ۲۱ پر بھی یہی مضمون ہے۔

(۱۰۷) پہلا قول: عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار:

”جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ لگتا ہے اس کا ان ہی حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۲۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۳۱)

دوسرا قول: عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار:

”وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں ایک شخص ہوگا۔“

(ازالہ وہام ص ۲۹۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۴۹)

(۱۰۸) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کی اولاد تھی:

”افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتی ہے کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہی اولاد ہو۔“ (مسیح ہندوستان میں ص ۷۰، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۷۰)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی کوئی اولاد نہ تھی:

ظاہر ہے کہ دنیوی رشتوں کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کی کوئی آل نہ تھی۔

(ترباق القلوب حاشیہ ص ۹۹، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۳۶۳)

(۱۰۹) پہلا قول: حضرت عیسیٰ نبی اسرائیل میں سے نہیں:

”مسیح بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تھا وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کا باپ نہ تھا صرف ماں اسرائیلی تھی۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۳۶، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۰۳)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں:

”بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے۔“

(خاتمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۴۱۲)

(۱۱۰) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کی قبر کے متعلق تضادات:

”یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا۔“

(ازالہ وہام ص ۱۹۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۵۳)

دوسرے اقوال:

(۱) ”بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر کشمیر کی طرف گیا اور وہیں فوت ہوا۔“

(کشتی نوح ص ۵۷، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۵۷-۵۸)

مرزا قادیانی نے اس مفہوم کی عبارات درج ذیل کتابوں میں بھی لکھی ہیں۔

1..... تذکرہ الشہادتین ص ۲۷، روحانی خزائن جلد ۲۰ ص ۲۹

2..... تحفہ گوڑوہ ص ۱۳، ۱۴، روحانی خزائن جلد ۱ ص ۱۰۶

3..... اعجاز احمدی ص ۱۹، روحانی خزائن جلد ۱۹ ص ۱۲۸

4..... ست بجن حاشیہ ص ۱۶۴، روحانی خزائن جلد ۱۰ ص ۲۸۸

5..... دافع البلاء ص ۱۵، روحانی خزائن جلد ۱۸ ص ۲۳۵

6..... راز حقیقت ص ۲۰، روحانی خزائن جلد ۱۴ ص ۱۷۲

(۲) ”اور حضرت عیسیٰ کی قبر بارہ قدس میں ہے اور اب تک موجود

ہے اور اس پر ایک گرجا بنا ہوا ہے اور وہ گرجا تمام گرجوں سے بڑا ہے اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی قبر ہے اور اسی گرجا میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر

ہے۔“ (اتمام الحجۃ ص ۲۰-۲۱، روحانی خزائن ج ۸ ص ۲۹۷)

(۱۱۱) پہلا قول: حضرت عیسیٰ صلیب پر چند منٹ رہے:

”مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے مسیح کے ساتھ ایسا نہ ہوا، عید فح کی کم فرصتی

اور عصر کا تھوڑا سا وقت اور آگے سبت کا خوف اور پھر آندھی کا آجانا۔ ایسے

اسباب یک دفعہ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے چند منٹ میں ہی مسیح کو صلیب پر سے اتار لیا گیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۸۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۹۶)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ صلیب پر چند گھنٹے رہے:

”حضرت مسیح بروز جمعہ بوقت عصر صلیب پر چڑھائے گئے تھے جب وہ چند گھنٹہ کیلوں کی تکلیف اٹھا کر بے ہوش ہو گئے اور خیال کیا گیا کہ مر گئے تو یک دفعہ سخت آندھی اٹھی اور اس سے سورج اور چاند دونوں کی روشنی جاتی رہی اور تاریکی ہو گئی۔“ (نزول المسیح حاشیہ ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۳۹۶)

(۱۱۲) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کی عمر ۳۲ سال:

”اور عیسائیوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک اسرائیلی آدمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے جو ۳۲ سال کی عمر پر اس دار الفناء سے گزر گیا۔“ (معیار المذہب ص ۱۰، روحانی خزائن ج ۹ ص ۳۶۸)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی عمر ۱۲۰ سال:

”اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر اپنے خدا کو جاملایا۔“

(تذکرہ الشہادتین ص ۲۹، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۲۹)

(۱۱۳) دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی عمر ۱۲۵ سال:

”حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے بلکہ صلیب سے نجات پر کرار پھر مرہم عیسیٰ سے صلیبی زخموں سے شفا حاصل کر کے نصیبین کی راہ سے افغانستان میں آئے اور افغانستان سے کوہ نعمان میں گئے اور وہاں اس مقام میں ایک مدت تک رہے جس شہزادہ نبی کا ایک چہوترا کہلاتا ہے جواب تک موجود ہے اور پھر وہاں سے پنجاب میں آئے اور مختلف

مقامات کی سیر کرتے ہوئے آخر کشمیر میں گئے اور ایک سو پچیس برس کی عمر پا کر کشمیر میں ہی فوت ہوئے اور سری نگر خانیاں کے محلہ کے قریب دفن کئے گئے۔“ (مجموعہ اشتہارات جلد سوم ص ۱۶۳)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی عمر ۱۵۳ سال:

یہ عمر مرزا قادیانی کی دو تحریروں کو ملانے سے معلوم ہوتی ہے۔ (الف) ”تمام یہود و نصاریٰ کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ کی عمر صرف تینتیس برس کی تھی۔“ (راز حقیقت حاشیہ ص ۳، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۵۵)

(ب) ”اور احادیث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ ابن مریم نے ایک سو بیس برس کی عمر پائی اور پھر فوت ہو کر خدا سے جاملایا۔“ (تذکرہ الشہادتین ص ۲۷، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۲۹)

تجزیہ: ان چار عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے متعلق چار اقوال ہیں۔

(۱) ۳۲ سال

(۲) ۱۵۳ سال

(۳) ایک سو بیس سال

(۴) ایک سو پچیس سال۔ مرزا صاحب نے ان اقوال میں سے کسی کو غلط نہیں کہا۔

(۱۱۳) پہلا قول: حضرت عیسیٰ چودھویں صدی میں آئے:

”مثیل ابن مریم، ابن مریم سے بڑھ کر اور وہ مسیح موعود نہ صرف مدت کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا جیسا کہ مسیح ابن مریم موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں ظاہر ہوا تھا۔“ (کشتی نوح ص ۱۳، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۴)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ پندرہویں صدی میں آئے:

اس لحاظ سے کہ حضرت مسیح حضرت موسیٰ سے چودہ سو برس بعد آئے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کا اس زمانہ میں ظہور کرنا ضروری ہو۔“

(شہادۃ القرآن ص ۶۹، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۶۵)

تجزیہ: پہلے قول کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد چودھویں صدی میں آئے اور دوسرے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چودہ سو سال بعد پندرہویں صدی میں تشریف لائے۔ کیا خوب۔

(۱۱۵) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کا مٹی کے پرندہ بنا کر اڑانا قرآن سے ثابت ہے:

”حضرت مسیح کی چڑیاں باوجودیکہ معجزہ کے طور پر ان کا پرواز کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے مگر پھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۶۸، روحانی خزائن ج ۵ ص ۶۸)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کا پرندوں والا معجزہ قرآن سے ثابت نہیں:

”اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز کرنا قرآن مجید سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔“ (ازالہ اوہام حاشیہ ص ۳۰۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۶)

(۱۱۶) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کا کوئی معجزہ نہ تھا:

”عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۴، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر قرآن میں ہے:

”قرآن شریف میں حضرت مسیح ابن مریم کے معجزات کا ذکر اس غرض سے نہیں ہے کہ اس سے معجزات زیادہ ہوئے ہیں بلکہ اس غرض سے ہے کہ یہودی اس کے معجزات سے قطعاً منکر تھے اور اس کو فریبی اور مکار کہتے تھے۔ پس خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہودیوں کے دفع اعتراض کے لیے مسیح ابن مریم کو صاحب معجزہ قرار دیا۔“

(نسیم دعوت ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۳۷۹)

”ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے صاحب معجزات ہونے سے انکار نہیں۔ بیشک ان سے بھی بعض معجزات ظہور میں آئے ہیں..... قرآن کریم سے بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ بعض نشان ان کے دیے گئے تھے۔“

(شہادت القرآن ص ۷۷، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۷۳)

(۱۱۷) پہلا قول: حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف سے پیش گوئی کی:

”یسوع نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میں داؤد کے تخت کو قائم کرنے آیا ہوں اور اسی طرح پر یہود کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری بادشاہی پھر دنیا میں قائم کرنے آیا ہوں اور رومی گورنمنٹ سے اب جلد تم آزاد ہونا چاہے ہو مگر وہ بات نہ ہوئی اور یسوع صاحب نے نہایت درجہ ذلت دیکھی منہ پر تھوکا گیا اور آپ کے اس حصہ جسم پر کوڑے لگائے گئے جہاں مجرموں کو لگائے جاتے ہیں اور حوالات میں کیا گیا پس یہود اور بہت سے لوگوں نے بخوبی سمجھ لیا کہ اس شخص کی پیشگوئی صاف جھوٹی نکلی اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔“

(انجام آتھم ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۱۲)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ نے وحی کے مطابق پیش گوئی کی:

”ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے خبر دی تھی کہ تو بادشاہ ہوگا۔ انہوں نے اس وحی الہی سے دنیا کی بادشاہی سمجھ لی اور اسی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ اپنے کپڑے بچ کر ہتھیار خرید لو مگر آخر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی غلط فہمی تھی اور بادشاہت سے مراد آسمانی بادشاہت تھی نہ زمین کی بادشاہت۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ۸۹، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۰)

تجزیہ: مرزا کے پہلے قول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لئے دنیوی بادشاہی کی پیش گوئی کی تھی ان کی یہ پیش گوئی خدا کی طرف سے نہ تھی اور وہ جھوٹی ثابت ہوئی دوسرے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئی وحی الہی کی بنیاد پر کی تھی البتہ اس کا مفہوم سمجھنے میں ان کو غلطی لگی۔

(۱۱۸) پہلا قول: حضرت عیسیٰ مسمریزم میں کامل تھے:

”اور یہ بات قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن و حکم الہی الیسع نبی کی طرح اس عمل الترب (مسمریزم) میں کمال رکھتے تھے۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۰۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۷، حاشیہ)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”جو میں نے مسمریزی طریق کا عمل الترب نام رکھا جس میں حضرت مسیح کسی درجہ تک عشق رکھتے تھے۔“

(ازالہ اوہام حاشیہ ص ۳۱۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۹)

(۱۱۹) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہوئی:

”یسوع مسیح اس قدر رویا کہ دعا کرتے کرتے اس کے منہ پر آنسو رواں

ہو گئے اور وہ آنسو پانی کی طرح اس کے رخساروں پر بہنے لگے اور وہ سخت رویا اور سخت دردناک ہوا تب اس کے تقویٰ کی وجہ سے اس کی دعا سنی گئی۔“ (تذکرۃ الشہادتین ص ۲۶-۲۷، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۲۹)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”حضرت مسیح علیہ السلام نے ابتلاء کی رات میں جس قدر تضرعات کیں وہ انجیل سے ظاہر ہیں۔ وہ ساری رات رور و کر دعا کرتے تھے کہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا ٹل جائے پھر باوجود اس قدر گریہ و زاری کے پھر بھی دعا منظور نہ ہوئی کیونکہ ابتلاء کے وقت کی دعا منظور نہیں ہوا کرتی۔“ (تبلیغ رسالت، ج ۱ ص ۱۳۲ مندرجہ)

(۱۲۰) پہلا قول: آسف بمعنی آرزو:

”در اصل یہ لفظ یسوع آسف ہے یعنی یسوع غمگین آرزو اور غم کو کہتے ہیں چونکہ حضرت مسیح نہایت غمگین ہو کر اپنے وطن سے نکلے تھے اس لیے اپنے نام کے ساتھ آسف ملا لیا۔“ (ست بچن ہاشیہ ص ۱۶۴، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۳۰۶)

دوسرا قول: آسف بمعنی قوم کو تلاش کرنے والا:

”ماسوا اس کے وہ لوگ شہزادہ نبی کا نام یوزا آسف بیان کرتے ہیں یہ لفظ صریح معلوم ہوتا ہے کہ یسوع آسف کا بگڑا ہوا ہے آسف عبرانی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قوم کو تلاش کرنے والا ہو۔ چونکہ حضرت عیسیٰ اپنی اس قوم کو تلاش کرتے کرتے جو بعض فرقہ یہودیوں میں سے گم تھے کشمیر میں پہنچے تھے اس لئے انہوں نے اپنا نام یسوع آسف رکھا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۲۸، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۴۰۴)



نواں باب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کے متعلق تضادات

(۱۲۱) پہلا قول: حضرت عیسیٰ پر تہمت لگانے والا خبیث ہے:

”آپ خدا کے مقبول اور پیارے تھے خبیث ہیں وہ لوگ جو ان پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں۔“ (اعجاز احمدی ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۴)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ پر مکرو فریب کا الزام:

”اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا“

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۷، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

(۱۲۲) پہلا قول: یسوع کی روح بابرکت تھی:

”اور اس نے چونکہ یسوع مسیح کے رنگ میں پیدا کیا اور توار طبع کے لحاظ سے یسوع کی روح میرے اندر رکھی تھی اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی مجھے یسوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی سو ریاست کا کاروبار تباہ ہونے سے یہ مشابہت بھی متحقق ہوگئی جس کو خدا نے پورا کیا۔“

(تحفہ قیصریہ ص ۲۰، روحانی خزائن ج ۱۲ ص ۲۷۲)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آجائے گا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۵، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹)

(۱۲۳) پہلا قول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں:

”ہم تو قرآن شریف کے فرمودہ کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سچا نبی مانتے ہیں۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۱، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۶۳-۲۶۴)

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء کو سخت گالیاں دیں، پس کیا

ایسی ناقص تعلیم جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے

ہو سکتی ہے؟“ (چشمہ مسیحی ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۴۶)

تجزیہ:

قول ثانی لکھ کر مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور یہ

اس کا عمومی طرز تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نبوت اس سیاق و سباق سے کرتا

ہے گویا انہیں نبی مان کر ان پر احسان کر رہا ہے۔

(۱۲۴) پہلا قول: حضرت عیسیٰ انتہائی متواضع تھے:

حضرت مسیح خدا کے متواضع اور حلیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے پھر

کیونکر ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شیخی اور دوسرے کی توہین

پائی جاتی ہے منسوب کیا جائے۔

(براہین احمدیہ ص ۱۰۴، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۹۴، حاشیہ)

نوٹ: لیکچر سیا لکھٹ ص ۴۳، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۲۳۶ پر بھی یہی مضمون ہے۔

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”مسیح کا چال چلن کیا تھا ایک کھاؤ پیو، شرابی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا

پرستار، متکبر خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔“

(نور القرآن جلد دوم ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۹ ص ۳۸۷)

(۱۲۵) پہلا قول: حضرت عیسیٰ پر کنجریوں سے تعلق کا الزام لگانے والا خبیث ہے:

”پھر اگر کوئی تکبر اور خود ستائی کی راہ سے اس بناء پر حضرت موسیٰ کی نسبت یہ کہے کہ نعوذ باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا یا حضرت مسیح کی نسبت یہ زبان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندے مال کو اپنے کام میں لایا یا حضرت ابراہیم کی نسبت یہ تحریر شائع کرے کہ مجھے جس قدر بدگمانی ان پر ہے اس کی وجہ ان کی دروغ گوئی ہے تو ایسے خبیث کی نسبت اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی فطرت سے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۹۸، روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۹۸)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر ناپاک ہاتھ لگاوے اور زنا کاری کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے؟“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱)

(۱۲۶) پہلا قول: نبی اپنا مشن مکمل کر کے دنیا سے جاتا ہے:

”بے شک انبیاء دنیا سے آخرت کی طرف تکمیل رسالت کے بغیر منتقل نہیں ہوتے۔“

(حمائۃ البشری ص ۴۹، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۴۳)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”(حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ہدایت اور توحید قائم کرنے کے بارے میں ان کی کاروائیوں کا نمبر ایسا کم رہا ہے کہ قریب قریب ناکام رہے۔“

(ازالہ وہام ص ۳۱۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۵۸)

تجزیہ:

قول اول وثانی کو ملا کر پڑھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرزا قادیانی کے نزدیک نبوت کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

(۱۲۷) پہلا قول: نبی کی پیش گوئی نہیں ٹل سکتی:

”ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں۔“

(کشتی نوح ص ۵، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۵)

(اعجاز احمدی ص ۲۶، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۵ پر بھی یہی مضمون لکھا ہے)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں:

”ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف صاف جھوٹی نکلیں اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کر سکے۔“

(اعجاز احمدی ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۱)

(۱۲۸) پہلا قول: شیطان انبیاء سے دور رہتا ہے:

”ہر ایک نبی مس شیطان سے پاک ہوتا ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ ج پنجم ص ۲۲۰، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۹۶)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”بہر حال آپ علمی اور عملی قوی میں بہت کچے تھے اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے

اسی الہام سے خدا سے منکر ہونے کیلئے بھی تیار ہو گئے تھے۔

(ضمیمہ انجام آقہم ۶، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰)

(۱۲۹) پہلا قول: مقدس ہستیوں پر الزام لگانے والے حرام زادے ہیں:

”ایسا ہی وہ شخص بھی اس سے کچھ کم بذات نہیں جو مقدس اور راست

بازوں پر بے ثبوت تہمت لگاتا ہے..... ہم سوچتے ہیں کہ کیوں خدا تعالیٰ کے

مقدس پیارے بندوں پر ایسے حرام زادے جو سفلہ طبع دشمن ہیں جھوٹے الزام

لگاتے ہیں۔“ (آریہ دھرم ص ۵۵، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۶۳)

(نوٹ): ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۸ روحانی خزائن جلد ۲۳ ص ۳۹۰۔ پیغام صلح ص ۲۲

روحانی خزائن جلد ۲۳ ص ۴۵۲ پر بھی یہی مضمون ہے۔

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ پر شراب نوشی کا الزام:

”یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نوشی سے نقصان پہنچایا ہے اس کا

سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیماری کی وجہ سے

یا پرانی عادت کی وجہ سے۔“

(کشتی نوح حاشیہ ص ۶۶، روحانی خزائن ج ۱۹ حاشیہ ص ۷۱)

(۱۳۰) پہلا قول: حضرت عیسیٰ کا احترام کرنے کا دعویٰ:

”گو خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی، مسیح موسوی سے افضل ہے لیکن

تاہم میں مسیح ابن مریم کی کی بہت عزت کرتا ہوں..... اور مفسد اور مفتری ہے

وہ شخص جو شخص مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔“

(کشتی نوح ص ۱۶، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۷-۱۸)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کی توہین:

”اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود

بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا

ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی

بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوی سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

(چشمہ مسیحی ص ۲۷، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۵۶)

(۱۳۱) پہلا قول: حضرت عیسیٰ نے تواضع کی وجہ سے خود کو نیک نہ کہا:

”اور جن کو عیسائیوں نے خدا بنا رکھا ہے کس نے اس کو کہا اے نیک استاد تو اس

نے جواب دیا کہ مجھے نیک کیوں کہتا ہے نیک کوئی نہیں مگر خدا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۰۷، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۷۱)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ پر بدکاری کا الزام (العیاذ باللہ):

”یسوع اس لئے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص

شرابی کبابی ہے۔“ (ست بچن ص ۱۷۲، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۲۹۶)

(۱۳۲) پہلا قول: حضرت عیسیٰ معلم اخلاقیات تھے:

”اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر سخت لفظ اپنے مخاطبین کے حق

میں استعمال کئے ہیں جیسا کہ سورکتے بے ایمان بدکار وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نہیں

کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ آپ اخلاق فاضلہ سے بے بہرہ تھے کیونکہ وہ تو خود اخلاق

سکھلاتے اور نرمی کی تاکید کرتے ہیں بلکہ یہ لفظ جو اکثر آپ کے منہ پر جاری

رہتے تھے یہ غصہ کے جوش اور مجنونہ طیش سے نہیں نکلتے تھے بلکہ نہایت آرام

اور ٹھنڈے دل سے اپنے محل پر چسپاں کئے جاتے تھے۔“ (ضرورت الامام ص

۷، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۴۷۷)

دسواں باب:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے متعلق تضادات

(۱۳۳) پہلا قول: رفع عیسیٰ عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ نہیں ہے:

”اور یہ بیان بھی صحیح نہیں کہ عیسائیوں کا متفق علیہ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح دنیا میں پھر آئیں گے کیونکہ بعض فرقے ان کے لئے حضرت مسیح کے فوت ہو جانے کے قائل ہیں اور حواریوں کی دونوں انجیلوں نے یعنی متی اور یوحنا نے اس بیان کی ہرگز تصدیق نہیں کی کہ مسیح درحقیقت آسمان پر اٹھایا گیا ہاں مرقس اور لوقا کی انجیل میں لکھا ہے مگر وہ حواری نہیں ہیں اور نہ کسی حواری کی روایت سے انہوں نے لکھا ہے۔“

(ازالہ اوہام ج اول ص ۴۱۹-۴۲۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۱۹)

دوسرا قول: رفع عیسیٰ، عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ہے:

”تمام فرقے نصاریٰ کے اسی قول پر متفق نظر آتے ہیں کہ تین دن تک حضرت عیسیٰ مرے رہے اور پھر قبر سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور چاروں انجیلوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام ج اول ص ۴۲۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۲۵)

(۱۳۳) پہلا قول: نزول مسیح کا عقیدہ ایمان کا حصہ نہیں ہے:

”مسیح کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزو ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صد ہا پیش گوئیوں میں سے ایک پیش

گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی نہیں جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کامل نہیں ہو گیا۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۴۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۷۱)

دوسرا قول: نزول مسیح کا عقیدہ مرتدانہ عقیدہ ہے:

”اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک زندہ رسول ماننا اس میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہتک ہے اور یہی وہ جھوٹا عقیدہ ہے جس کی شامت کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان اس زمانہ میں مرتد ہو چکے ہیں۔“

(تختہ گولڑویہ ص ۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۹۴)

(۱۳۵) پہلا قول: نزول عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید سے ثابت ہے:

”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کملہ یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان سے ہاتھ سے دین اسلام مجمع آفاق و افطار میں پھیل جائے گا۔“ (براہین احمدیہ ص ۴۹۸، روحانی خزائن ج ۱ ص ۵۹۳)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں

ہے۔“ (ایام الصلح ص ۱۴۶، روحانی خزائن ج ۱ ص ۳۹۲-۳۹۳)

(ازالہ اوہام ص ۴۲۸، روحانی خزائن جلد ۳ ص ۱۷۲ پر بھی یہی مضمون ہے)

(۱۳۶) پہلا قول: حدیث میں آسمان سے اترنے کا ذکر ہے:

”صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان

سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد ہوگا اس لفظ کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیا لغو خیال ہے؟“ (ازالہ اوہام ص ۸۱، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۴۲)

دوسرا قول: حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں ہے:

”ہاں بعض احادیث میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا لفظ پایا جاتا ہے لیکن کسی حدیث میں یہ نہیں پایا جاتا کہ ابن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا۔“

(حملۃ البشری ص ۷۷، روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۰۲)

(۱۳۷) پہلا قول: حضرت عیسیٰ امت محمدیہ میں داخل ہیں:

”یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اس امت کے شمار میں آگئے ہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۲۳، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۳۶)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں:

”حضرت مسیح کو امتی قرار دینا ایک کفر ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۹۲، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۳۶۲)

(۱۳۸) پہلا قول: نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مہمل عقیدہ ہے:

”ایک پرانا خیال جو دل میں جما ہوا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اس خیال کو اس طرح پر سمجھ لیا ہے کہ گویا مسیح حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ جن پر انجیل نازل ہوئی تھی کسی زمانہ میں اتریں گے حالانکہ یہ ایک بھاری غلطی ہے۔“ (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۶۳۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۴۵)

دوسرا قول: نزول عیسیٰ علیہ السلام کا احادیث میں ذکر ہے:

”جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس کا انہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی بھی ہوگا اور امتی بھی۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۲۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۳۱)

(۱۳۹) پہلا قول: عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں:

”بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی رو سے جن نبیوں کا اسی وجود غصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دونی ہیں ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔“ (توضیح مرام ص ۳، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۲)

دوسرا قول: عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں:

”پھر جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو ان سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہی ثابت ہوتی ہے مثلاً حدیث معراج کو دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت مسیح کو فوت شدہ انبیاء میں دیکھا ہے۔ اگر وہ فوت ہوتے تو فوت شدہ روحوں میں ہرگز دیکھے نہ جاتے۔“ (تختہ گولڑویہ ص ۱۲۶، روحانی خزائن ج ۱ ص ۳۱۰)

(۱۴۰) پہلا قول: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۰۳، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۲۵)

دوسرا قول: حضرت موسیٰ زندہ ہیں:

”حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔“

(خلاصہ عربی عبارت نور الحق حصہ اول ص ۵۰، روحانی خزائن ج ۸ ص ۶۹)

(۱۴۰) پہلا قول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی فتنہ کا علم ہے:

”خدا تعالیٰ نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتنہ حضرت مسیح کو دکھایا یعنی ان کو آسمان پر اس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری قوم اور تیری امت نے

اس طوفان کو برپا کیا ہے۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶۸، روحانی خزائن ج ۵ ص ۲۶۸)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی فتنہ کا علم نہیں ہے:

”علاوہ اس کے قیامت کے دن یہ جواب ان کا کہ اس روز سے کہ میں مع جسم عصری آسمان پر اٹھایا گیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوا؟ یہ اس عقیدہ کی رو سے صریح دروغ بے فروغ ٹھہرتا ہے جب کہ تجویز کیا جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۳۱، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۳۳)

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۲۱ ص ۵۱، پر بھی یہی مضمون ہے) تجزیہ:

قول ثانی دراصل مرزا صاحب کی بزعم خویش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اہم دلیل ہے ان کی اس اہم دلیل کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی لکھوا دیا ہے جو کہ قول اول کی صورت میں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ”جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے“

(۱۴۲) پہلا قول: نزول عیسیٰ پر اجماع امت ہے:

”ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۸۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

دوسرا قول: نزول عیسیٰ پر اجماع امت نہیں ہے:

مرزا صاحب طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں:

”کیا ان احادیث پر اجماع ثابت ہو سکتا ہے کہ مسیح آ کر جنگلوں میں خزیروں کا شکار کھلتا پھرے گا؟“

(ازالہ اوہام ص ۴۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۲۶)

(۱۴۳) پہلا قول: نزول مسیح کے عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے:

”اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو بلکہ صد ہا پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۴۰، روحانی خزائن جلد ۳ ص ۱۷۱)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”یہ کہنا بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے یہ ایک شرک عظیم ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔“

(الاستغناء ضمیرہ ہقیقۃ الوحی ص ۳۹، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۶۰)

”یہی وہ جھوٹا عقیدہ ہے جس کے شامت کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان اس

زمانہ میں مرتد ہو چکے ہیں۔“ (تختہ گولڑویہ ص ۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۹۴)

(۱۴۴) پہلا قول: عقیدہ تثلیث کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ سے برزخ میں سوال کیا گیا تھا:

”اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوال حضرت مسیح سے عالم برزخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا تھا نہ یہ کہ قیامت میں کیا جاوے گا۔“

(ازالہ اوہام ص ۷۴-۷۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۰۳)

دوسرا قول: مذکورہ سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا:

”اس آیت کے اول آخر کی آیتوں کے ساتھ یہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے؟“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۴۰، روحانی خزائن ج ۲ ص ۵۱)

(۱۳۵) پہلا قول: سو سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا:

”اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص زمین کی مخلوقات سے ہو وہ شخص سو برس کے بعد زندہ نہیں رہے گا اور ارضی کی قید سے مطلب یہ ہے کہ تا آسمان کی مخلوقات اس سے باہر نکالی جائے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت مسیح بن مریم آسمان کی مخلوقات میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ زمینی مخلوقات اور ماعلیٰ الارض میں داخل ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پر پیدا ہوا اور خاک میں سے نکلا وہ کسی طرح سو برس سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔“

(ازالہ ابہام ص ۲۲۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۳۷)

دوسرا قول: کئی آدمیوں نے سو سال سے زیادہ عمر پائی ہے:

(الف) ”مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ بعض نے حال کے زمانہ میں تین سو برس سے زیادہ عمر پائی ہے جو بطور خرق عادت ہے۔“

(سرمد چشم آری ص ۵۰، روحانی خزائن ج ۲ ص ۹۸)

(ب) ”اور لبید کے فضائل میں سے ایک یہ بھی تھا جو اس نے نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا بلکہ زمانہ ترقیات اسلام کا خوب دیکھا اور ۱۴ ہجری میں ایک سو ستاون برس کی عمر پر کفوت ہوا۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹، روحانی خزائن ج ۲ ص ۱۶۲-۱۶۳)

(۱۳۶) پہلا قول: جسم غصری آسمان پر جا سکتا ہے:

”سوا یک محدود زمانہ کے محدود و محدود تجارت کو پورا پورا قانون قدر خیال کر لیا نا و اس پر غیر متناہی سلسلہ قدرت کو ختم کر دینا اور آئندہ کے لئے اسرار کھلنے سے نہ امید ہو جانا۔ ان پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے خدائے

ذوالجلال کو جیسا کہ چاہیے تھا شناخت نہیں کیا۔“

(سرمد چشم آری ص ۱۷، روحانی خزائن ج ۲ ص ۶۵)

”پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح مع گوشت پوست آسمان پر چڑھ گیا تھا ہماری طرف سے یہ جواب کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ بعید نہیں کہ انسان مع جسم غصری آسمان پر چڑھ جائے۔“

(چشمہ معرفت جلد دوم ص ۲۱۹، روحانی خزائن ج ۲ ص ۲۲۷-۲۲۸)

دوسرا قول: حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا ناممکن ہے:

”نیا اور پرانا فلسفہ اس بات کو محال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس خاکی جسم کے ساتھ کرہ زمہریر تک بھی پہنچ سکے۔ اگرچہ پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو کچھ شک نہیں کہ اتنی مدت گزرنے پر پیر فرقت ہو گئے ہوں۔“ (ازالہ ابہام ص ۴۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۲۶)

(۱۳۷) پہلا قول: لد ایک گاؤں کا نام ہے:

”پھر حضرت ابن مریم دجال کی تلاش میں لگیں گے اور لد کے دروازہ پر جو بیت المقدس کے دیہات میں سے ایک گاؤں ہے اس کو جا پکڑیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔“ (ازالہ ابہام ص ۲۲۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۰۹)

دوسرا قول: لد جھگڑالو کو کہتے ہیں:

”دجال جس ویرانہ پر گزرے گا اسے کہیں گا تو اپنے خزانے باہر نکال، سو وہ تمام خزانے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال زمین سے بہت فائدہ اٹھائے گا اور اپنی تدبیروں سے زمین کو آباد کرے گا اور ویرانے کو خزانے کر کے دکھائے گا اور

پھر آخر باب لد پر قتل کیا جائے گا لد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے جا جھگڑنے والے ہوں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دجال کے بے جا جھگڑے کمال تک پہنچ جائیں گے تب مسیح موعود ظہور کرے گا اور اسکے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔“ (ازالہ اوہام ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۹۳)

فائدہ: مذکورہ دونوں اقوال کے برخلاف مرزا قادیانی کا ایک تیسرا قول بھی ہے وہ یہ کہ ”لد سے مراد لدھیانہ شہر ہے“

(الہدی والتبصرة لمن یری حاشیہ ص ۹۱، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۳۴۱)

(۱۲۸) پہلا قول: رفع ونزول مسیح کی پیش گوئی کا اجماع سے کوئی تعلق نہیں ہے:

”اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیش گوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۰۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۰۸)

دوسرا قول: رفع ونزول مسیح کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے:

”ہاں تیرہویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا آنا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۱۸۵، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۸۹)

(۱۲۹) پہلا قول: مسئلہ رفع ونزول سے متعلق آیات کے بارے میں تضادات:

”سولفظ متونی جن عام معنوں سے تمام قرآن اور حدیثوں میں مستعمل ہے وہ یہی ہے کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو معطل چھوڑ دینا یہ بڑے تعصب کی بات ہے کہ تمام جہاں کے لئے تو توفی کے یہی معنی روح قبض کرنے کے ہوں لیکن مسیح ابن مریم کے لئے جسم قبض کرنے کے معنی لئے جاویں..... غرض برخلاف

اس متبادر اور مسلسل معنوں کے جو قرآن شریف سے توفی کے لفظ کی نسبت اول سے آخر تک سمجھے جاتے ہیں ایک نئے معنی اپنی طرف سے گھڑنا یہی تو الحاد اور تحریف ہے۔“ (ازالہ اوہام ص ۴۴، روحانی خزائن ج ۳ ص ۵۰۱)

دوسرا قول: توفی کے معانی جو مرزا نے خود لکھے ہیں:

(۱) ”انسی متوفیک ورافعک الی۔ (ترجمہ) میں تجھ کو پوری نعت دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔“

(براہین احمدیہ ص ۵۲۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۲۰)

(۲) ”پھر بعد اسکے الہام یہ ہے یا عیسیٰ انسی متوفیک ورافعک الی..... اے عیسیٰ میں تجھے کامل اجر بخشوں گا یا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔“ (براہین احمدیہ حاشیہ ص ۵۵۷، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۶۵)

(۳) ”یا عیسیٰ انی متوفیک اور الہام کے معنی ہیں کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔“

(سراج منیر ص ۲۱، روحانی خزائن ج ۱۲ ص ۲۳)

تجزیہ: مرزا صاحب نے قول ثانی میں درج حوالہ جات میں توفی کے معنی موت کے علاوہ کر کے خود بدل والحاد کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اگر انہیں ملحد کہہ دیا جائے تو مرزائی اسے معلوم نہیں بدزبانی کیوں سمجھتے ہیں؟

(۱۵۰) پہلا قول: اذ ماضی کے لئے استعمال ہوتا ہے:

”آیت فلما توفینی..... سے پہلے یہ آیت ہے..... واذا قال اللہ یعیسیٰ اَنْتَ قلت للناس الخ..... اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اول اذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے

یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا۔“ (ازالہ اوہام ص ۶۰۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۲۵)

دوسرا قول: اذ مضارع کے لئے استعمال کیا جاتا ہے:

”جس شخص نے کافیہ یا ہدایۃ النخو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنوں میں بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اس کی بہت سی نظریں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ينسلون..... اور جیسا کہ فرماتا ہے..... واذا قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم ائت قلی للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال اللہ هذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۶، روحانی خزائن ج ۲ ص ۱۵۹)

(۱۵۱) پہلا قول: آیت میں ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہیں:

”ان فرقة من الیہود اعنی الصدوقین کا نو اکافرین بوجود القیمة فاحبرہم اللہ اعلیٰ لسان بعض انبیائہ ان ابنا من قومہم یولد من غیر اب وهذا یکون ایۃ لہم علی وجود القیمة فالی هذا اشار فی آیۃ وانہ لعلم للساعۃ وكذلك فی ایۃ ولنجعلہ ایۃ للناس۔“ (حمائۃ البشری ص ۹۰، روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۱۶)

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت قرآنی وانہ لعلم للساعۃ میں ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے آنے کی ایک نشانی ہیں۔

دوسرا قول: ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں:

”پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی نسبت ہے وانہ لعلم للساعۃ جن لوگوں کی یہ قرآن دانی ہے ان سے ڈرنا چاہیے کہ نیم ملا خطرہ ایمان۔ اے بھلے مانسو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم للساعۃ نہیں؟ جو فرماتے ہیں کہ بعثت انسا والساعۃ کھاتین اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر یہ کیسی بد بودار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساعۃ سے قیامت سمجھتے ہیں اب مجھ سے سمجھو کہ ساعۃ سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد طیطوس رومی کے ہاتھ سے یہودیوں پر نازل ہوا تھا۔

(اعجاز احمدی ص ۲۰-۲۱، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۹)



گیارہواں باب:

دابة الارض اور دجال کے متعلق تضاد بیانی

(۱۵۲) پہلا قول: دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا:

”پھر دجال ایک اور قوم کی طرف جائے گا اور اپنی الوہیت کی طرف ان کو

دعوت دے گا۔“ (ازالہ ابہام ص ۲۱۷-۲۱۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۰۸)

دوسرا قول: دجال خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا:

”دجال خدا نہیں کہلائے گا بلکہ خدا کا قائل ہوگا بلکہ بعض انبیاء کا بھی۔“

(ازالہ ابہام ص ۷۳۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۹۳)

(۱۵۴) پہلا قول: ابن صیاد ہی دجال ہے:

”اب جبکہ خاص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ ابن

صیاد ہی دجال موعود ہے بلکہ صحابہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہی دجال موعود ہے تو

کیا اس کے دجال معہود ہونے میں کچھ شک رہ گیا ہے؟“

(ازالہ ابہام ص ۲۲۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۲۱۱)

دوسرے اقوال:

(۱) دجال سے مراد ایک فرقہ مراد ہے:

”دجال سے مراد ایک فرقہ ہے جو کتاہوں میں تحریف کرتا ہے۔“

(خلاصہ عبارت تحفہ گوڑویہ حاشیہ ص ۸۹، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۴۰)

(۲) دجال سے جھوٹوں کا گروہ مراد ہے:

”لغٹ میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۴۸۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۶۲)

(۳) دجال شیطان کا دوسرا نام ہے

”دجال شیطان کا نام ہے۔ دجال جھوٹ کے حامی کو کہتے ہیں۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۳۱۳، روحانی خزائن ج ۲ ص ۳۲۶)

(۴) دجال شیطان کا اسم اعظم ہے۔

(تحفہ گوڑویہ ص ۱۷۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۶۹)

(۵) دجال کا معنی محرف یا دہریہ ہے:

”یہ لفظ محرف کے لفظ یا دہریہ کے لفظ سے مترادف ہے۔“

(تحفہ گوڑویہ حاشیہ ص ۸۵، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۳۳)

(۶) دجال با اقبال قوموں کو کہتے ہیں:

”ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے با اقبال قومیں مراد ہوں اور گدھا

ان کا بھی ریل ہو۔“ (ازالہ ابہام ص ۱۴۶، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۷۷)

(۷) دجال پادریوں کو کہتے ہیں:

”دجال پادری لوگ عیسائی ہیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۲۰۶، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۶۲، جلد ۳)

(۸) دجال کاریگروں کا کہتے ہیں:

”دجال صنایع لوگ اور کلوں کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔“

(۹) یورپ کے فلاسفر دجال ہیں:

”دجال، یورپ کے فلاسفر ہیں۔“

(کتاب البریہ ص ۲۱۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۴۴)

(۱۵۵) پہلا قول: دابة الارض سے علمائے سومرادی ہیں:

”بے شک دابة الارض سے مراد علماء سو ہیں جو اپنے قول سے رسول اور قرآن کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں پھر برے عمل کرتے ہیں اور دجال کی خدمت کرتے ہیں۔“ (حملة البشرى ص ۸۶، روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۰۸)

دوسرے اقوال:

(۱) طاعون کا کیڑا مراد ہے:

”اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دابة الارض جو ان آیات میں مذکور ہے جس کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دابة الارض رکھا۔“ (نزول المسیح ص ۳۹، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۱۶)

(۲) دابة الارض سے متکلمین مراد ہیں:

”واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض یعنی جب ایسے دن آئیں گے جو کفار پر عذاب نازل ہو اور ان کا وقت مقدر قریب آجائے تو ہم ایک گروہ دابة الارض کا زمین سے نکالیں گے وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا۔“

(ازالہ ابہام ج ۲ ص ۵۰۳، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۷۰)

(۳) دابة الارض سے علمائے سومرادی ہیں:

”ایسا ہی دابة الارض یعنی وہ علماء و واعظین کو آسمانی قوت اپنے اندر نہیں رکھتے ابتداء سے چلے آتے ہیں لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آخری زمانہ

میں ان کی حد سے زیادہ کثرت ہوگی اور ان کے خروج سے مراد وہی ان کی کثرت ہے۔“ (ازالہ ابہام ج ۲ ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۷۳)

(۴) دابة الارض سے واعظ مراد ہیں:

”گیارہویں علامت دابة الارض کا ظہور میں آنا یعنی ایسے واعظوں کا بکثرت ہو جانا جن میں آسمانی نور ذرہ بھی نہیں۔“

(شہادۃ القرآن ص ۲۵، روحانی خزائن ج ۶ ص ۳۲۱)

(۵) دابة الارض سے طاعون کے جراثیم مراد ہیں:

”دابة الارض کا معنی طاعون کے جراثیم کے علاوہ اور کچھ کرنا الحاد اور دجل

ہے۔“ (خلاصہ عبارت نزول المسیح ص ۴۲، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۴۱۸)

تجزیہ: مرزا صاحب نے مذکورہ حوالہ جات میں دابة الارض سے (۱) علماء سو (۲) طاعون کا کیڑا (۳) گروہ متکلمین (۴) علماء و واعظین مراد لئے ہیں۔ اور یوں خود ہی دجل والحاد کا ارتکاب کیا ہے۔

لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا۔



بارہواں باب:

مرزا صاحب کے قول و فعل کا تضاد

(۱۵۶) پہلا قول: مرزا صاحب کا قول:

”میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے میں بنی نوع انسان ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔“

(الرابعین ص ۲، روحانی خزائن ج ۷ ص ۳۴۴)

دوسرا قول: مرزا صاحب کا فعل:

”میں نے طاعون پھیلنے کے لئے دعا کی ہے سو وہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون پھیل گئی۔“ (حقیقۃ الوحی ۲۲۴، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۳۵)

(۱۵۷) مرزا صاحب کا قول:

”جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان سے معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت سے نہیں۔“

(کشتی نوح ص ۱۷، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۱۹)

مرزا کا عمل:

”بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے جن کو لوگ عام طور سے ”بھجے دی ماں“ کہا کرتے تھے بے تعلقی سی تھی جسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں

کو دین سے (مرزا صاحب کے خود ساختہ دین سے۔ ناقل) سخت بے رغبتی تھی اور ان کا ان کی طرف میلان تھا اور وہ اسی رنگ میں رنگین تھیں اس لئے حضرت مسیح موعود نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔“ (سیرت المہدی حصہ اول ص ۳۳، روایت نمبر ۴۱)

(۱۵۸) مرزا کا قول: ادنیٰ چیزوں پر مقدمات کی مذمت:

”حضرت اولیس قرنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے تھے ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت کر کے یہ قبولیت اور عزت پائی ایک وہ ہیں کہ ایک ایک پیسہ کے لئے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام بری طرح لیتے ہیں۔“

(ملفوظات احمدیہ جلد اول ص ۲۹۶)

مرزا کا فعل:

”ایک مرتبہ مجھے اپنے ایک زمیندار مقدمہ کے متعلق جو تحصیل ہالہ میں دائر تھا خواب آئی کہ جھنڈا سنگھ نام ایک ذلیل کار پر ہماری ڈگری ہوگی اس ذلیل کا پرچہ بوجہ ایک درخت کیکر (بول) جس کو اس نے اپنے کھیت سے ہماری اجازت کے بغیر کاٹ لیا تھا چودہ روپے کی نالش کر دی گئی۔ سو خواب میں دکھائی دیا کہ دعویٰ مسموع ہو کر ڈگری ہوگئی۔“

(تریاق القلوب ص ۳۶-۳۷، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۲۰۶)

(۱۵۸) مرزا کا قول:

”میں نے جوابی طور پر بھی کسی کو گالی نہیں دی۔“

(مواہب الرحمن ص ۱۸، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۲۳۶)

مرزا کا فعل:

”میرے سخت الفاظ جوابی طور پر ہیں۔“

(کتاب البریہ ص ۱۱، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۱۱)

(۱۵۹) مرزا کا قول:

”گالی دینا اور بدزبانی طریق شرافت نہیں۔“

(اربعین نمبر ۴ ضمیمہ ۳-۴، روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۱۷۱)

مرزا کا فعل: بطور نمونہ مرزا صاحب کی چند گالیاں

(الف) ان العدی صاروا خنازیر الفلا، ونسائهم من دونہن الا کلب۔“

ترجمہ: ”دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کیتوں سے بڑھ گئیں۔“ (نجم الہدی ص ۵۳، روحانی خزائن ج ۱۴ ص ۵۳)

(ب) تلک کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبة والمودة ینتفع من معارفہا ویقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۷-۵۴۸، روحانی خزائن ج ۵ ص ۵۴۷-۵۴۸)

ترجمہ: ”یہ میری کتابیں ہیں جن کو ہر مسلمان دوستی اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور ان کتابوں میں میں نے جو علوم لکھے ہیں ان سے نفع اٹھاتا ہے مگر کجخیوں کی اولاد نہیں مانتی۔“

(۱۶۰) مرزا کا قول:

”ہمارے سید و مولیٰ افضل الانبیاء خیر الاصفیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا

تقویٰ دیکھے کہ وہ ان عورتوں کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملا تے جو پاک دامن اور نیک بخت ہوتی تھیں بلکہ دور ہی بٹھا کر صرف تلقین و توبہ کرتے تھے۔“

(نور القرآن نمبر ۷۷، روحانی خزائن ج ۹ ص ۴۴۹)

(سیرت الہدی جلد ۳ ص ۱۵، روایت نمبر ۷۷ پر بھی یہی مضمون ہے)

مرزا کا فعل:

مرزا صاحب کا اپنا عمل ملاحظہ فرمائیں۔

(الف) ”حضور کو مرحومہ (عائشہ) کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پسند تھی حضور نے ایک دفعہ مرحومہ کو دعا دے کر فرمایا اللہ تجھے اولاد دے۔ حضور کی دعا سے مرحومہ کے چھ بچے ہوئے ایک لڑکی اور پانچ لڑکے۔“ (عائشہ نامی قادیانی عورت کے خاندان کا مضمون مندرجہ الفضل ۲۰ مارچ ۱۹۲۸ء)

(ب) ”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المؤمنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسماۃ بھانوتھی وہ ایک رات جبکہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی چونکہ وہ لحاف کے اوپر سے دباتی تھی اس لئے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبارہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ پانگ کی پٹی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا بھانو آج بڑی سردی ہے، بھانو کہنے لگی جی ہاں تدے تاں تہاڑی لتاں لکڑی وانگوں ہو یاں ہو یاں ایں، یعنی جی ہاں جی تو آپ کی لاتیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی ہیں۔“

(سیرت الہدی حصہ سوم ۲۱۰ روایت نمبر ۴۸۰)

(۱۶۱) مرزا کا قول:

تمہیں چاہیے کہ آریوں کے رشیوں اور بزرگوں کی نسبت ہرگز سختی کے

الفاظ استعمال نہ کرو تا کہ وہ بھی خدائے قدوس اور اس کے رسول پاک کو گالیاں نہ دیں۔“ (نسیم دعوت ص ۴، روحانی خزائن ج ۹ ص ۳۶۵)

مرزا کا فعل:

”آریوں کے پنڈت دیانند نے اس خدا ترس بزرگ (گورونانک) کی نسبت گستاخی کے کلمات سیتا تھ پرکاش میں لکھے ہیں درحقیقت یہ شخص سیاہ دل جاہل حق شناس ظالم پنڈت نالائق یا وہ گوبد زبان پر لے درجے کا متکبر رہا کار خود بین نفسانی اغراض سے بھرا ہوا خبیث مادہ سخت کلام خشک دماغ موٹی سمجھ کا آدمی نااہل تھا۔“ (ست پجن ص ۸-۹، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۱۲۰-۱۲۱)

(۱۶۲): مرزا کا قول: مرزا صاحب کے فتاویٰ:

(۱) ”جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے۔“

(ضمیمہ تحفہ گولڑویہ حاشیہ ۱۳، روحانی خزائن ج ۷ ص ۵۶)

(۲) ”جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔“

(چشمہ معرفت ص ۲۲۲، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

(اربعین ص ۳۲ حاشیہ روحانی خزائن جلد ۷ ص ۴۰۷، پر بھی یہی مضمون ہے)

(۳) ”جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۲۰۶، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵)

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۹ روحانی خزائن جلد ۳ ص ۳۴۳ پر بھی یہی مضمون ہے)

مرزا کا فعل: مرزا صاحب کے چند جھوٹ:

(۱) ”ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی پیش گوئیاں پوری

ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے

دکھا اٹھائے گا اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے۔“

(اربعین ص ۳۵، روحانی خزائن ج ۷ ص ۴۰۴)

(۲) ”صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے

نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کا لفظ

بولا گیا۔“ (اربعین ص ۳۵، روحانی خزائن ج ۷ ص ۴۱۳)

(۱۶۳): مرزا کا قول:

”ایک شخص جو کسی کے باپ کو گندی گالیاں دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے خوش ہو یہ کیونکر ہو سکتا ہے جو لوگ محض زبان سے صلح کے لئے زور دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ صلح کے کام دکھلائیں۔ اے ہم وطن پیارو..... ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں چاہیے کہ باہم محبت کریں مگر یاد رکھو منافقانہ محبت نہیں ایک زہر بلا ختم ہے بدزبانی اور صلح کاری جمع نہیں ہو سکتی۔“ (ضمیمہ چشمہ معرفت ص ۱۲ روحانی خزائن جلد ۲ ص ۳۸۴)

مرزا کا فعل:

مرزا صاحب کی بدزبانی کے چند نمونے:

(الف) ”جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا سو سمجھا جائے کہ اسے ولد الحرام

بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔“

(انوار اسلام ص ۳۰، روحانی خزائن ج ۹ ص ۳۱)

(ب) ”ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت

صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور لذت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو

بندروں اور سؤروں کی طرح کر دیں گے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۷)

(ج) ”اے بد ذات فرقہ مولویاں! تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولوی! تم پرافسوس! کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالی پیادہ ہی عوام کا لالہ انعام کو بھی پلایا۔“
(انجام آتھم ص ۱۹، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۱)

(۱۶۴): مرزا کا قول:

”قرآن شریف کی جگہ صرف حدیث پڑھ کر نماز نہیں ہو سکتی۔“
(ازالہ ابہام ج ۲ ص ۵۲۹، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۸۴)

مرزا کا فعل:

”ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گرمیوں میں مسجد مبارک میں مغرب کی نماز پیر سیراج الحق صاحب نے پڑھائی۔ حضور علیہ السلام (مرزا قادیانی) بھی اس نماز میں شامل تھے تیسری رکعت میں رکوع کے بعد انہوں نے بجائے مشہور دعاؤں کے حضور کی ایک فارسی نظم پڑھی۔ جس کا یہ مصرع ہے۔ ”اے خدا اے چارہ ساز ما۔“

(سیرت المہدی حصہ سوم ص ۱۳۸، روایت نمبر ۷۰۷)

تجزیہ: مرزا صاحب کے مرید نے نماز میں فارسی نظم پڑھی، لیکن مرزا صاحب سمیت کسی نے بھی نماز نہ دہرائی نماز میں جب قرآن مجید کی جگہ حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں تو فارسی نظم پڑھنے کی اجازت کیسے ہوگئی؟

(۱۶۵): مرزا کا قول: محرف قرآن ملحد اور کافر ہے:

(۱) ”یوں ہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بد معاش اور

گندے کھلاتے ہیں۔“

(چشمہ معرفت جلد دوم ص ۱۹۵، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۳-۲۰۴)
(۲) ”ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے اور ایک شعثہ یا نقطہ اس کی شرائع اور حدود اور احکام اور اوامر سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور نہ کم ہو سکتا ہے اور اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کے تبدیل یا تغیر کر سکتا ہو اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مؤمنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے۔“

(ازالہ ابہام ص ۱۳۷-۱۳۸، روحانی خزائن ج ۳ ص ۱۷۰)

مرزا کا فعل: مرزا صاحب کی چند تحریفات:

(۱) اصل آیت: قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا الخ
محرف آیت: قل لئن اجتمعت الجن والانس الخ (براہین احمدیہ ج ۲ ص ۴۹۲ طبع قدیم)
(۲) اصل آیت: ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم.
محرف آیت: انا آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم.

(۱۶۶): مرزا کا قول:

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ:
”اس در ماندہ انسان کی پیش گوئیاں کیا یہی تھے کہ زلزلے آئیں گے؟ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں۔“

(ضمیمہ انجام آتھم حاشیہ ص ۴، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۸)

مرزا کا فعل: زلزلہ کی پیش گوئی:

”آج ۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء کو پھر خدا تعالیٰ نے مجھے دوسری مرتبہ کے زلزلہ شدید کی نسبت اطلاع دی ہے سو میں محض ہمدردی مخلوق کے لئے عام طور پر تمام دنیا کو اطلاع دیتا ہوں کہ یہ بات آسمان پر قرار پائی ہے کہ ایک شدید آفت سخت تباہی ڈالنے والی دنیا پر آوے گی جس کا نام خدا تعالیٰ نے بار بار زلزلہ رکھا ہے۔“ (مجموعہ اشتہارات، جلد سوم ص ۵۳۵)

(۱۶۷): مرزا کا قول:

”یہ چاروں انجیلیں جو یونانی سے ترجمہ ہو کر اس ملک میں پھیلانی جاتی ہیں ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں۔“

(تریاق القلوب ص ۱۴، روحانی خزائن ج ۱۵ ص ۱۴۲)

مرزا کا فعل:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ:

”متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی۔ آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔“ (ضمیمہ انجام آیت ص ۵، روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹)

تجزیہ: یہاں مرزا صاحب نے انجیل متی کو خود معتبر سمجھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا ہے۔

☆☆☆

تیرا ہواں باب:

مرزا بشیر الدین محمود کے تضادات

(۱۶۸) پہلا قول: ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے خون بہانا غلط ہے

”اسی طرح اس قوم کا جس کے جو شیلے آدمی کے قتل کرتے ہیں خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائے اور ان سے اظہار برأت کرے انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی بھی کیسا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لئے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔ جس کے بچانے کے لئے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ سمجھنا کہ محمد رسول اللہ کی عزت کے لئے قتل کرنا جائز ہے سخت نادانی ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اتنی ہی ہے کہ ایک شخص کے خون سے اس کی ہتک دھوئی جاسکے۔ (روزنامہ الفضل قادیان مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۲۹ء)

دوسرا قول: ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے خون بہانا درست ہے:

”اپنے دینی اور روحانی پیشوا کی معمولی ہتک بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا..... اس قسم کی شرارتوں کو نتیجہ لڑائی جھگڑا حتیٰ کہ قتل و خونریزی بھی معمولی بات ہے..... اگر (اس سلسلے میں) کسی کو پھانسی بھی دی جائے اور وہ بزدلی دکھائے تو ہم ہرگز اسے منہ نہیں لگائیں گے بلکہ میں تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا۔“ (الفضل ۱۱ اپریل ۱۹۳۰ء)

(۱۶۹) پہلا قول: نبی کا لغوی اور اصطلاحی معنی ایک ہے:

”اگر وہ تم کو کہیں کہ حضرت مسیح موعود تو لکھتے ہیں کہ آپ صرف لغوی نبی ہیں تو ان سے کہو کہ ذرا لغت کھول کر دیکھو نبی اللہ کی تعریف اس میں کیا لکھی

ہے؟ لغت کی تعریف تو یہی ہے کہ نبی وہ ہے جو کثرت کے ساتھ غیب کے اہم امور کی خبریں دے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نبی رکھا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی تعریف فرماتا ہے..... پس جبکہ لغت میں نبی کے معنی اور قرآن کی اصطلاح ایک ہی ہیں تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ اپنی طرف سے نئی شرائط تجویز کرے۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۱۵-۱۱۶، انوار العلوم ج ۲ ص ۲۴۰)

دوسرا قول: نبی کا لغوی و اصطلاحی معنی ایک نہیں ہے:

”۱۹۰۱ء سے پہلے آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام کی اصطلاح کی رو سے نبی وہی ہو سکتا ہے جس میں مذکورہ بالا تین باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے یعنی:

(۱) وہ جدید شریعت لائے۔

(۲) بعض احکام شریعت سابقہ منسوخ کرے۔

(۳) یا بلا واسطہ نبوت پائے۔

اور چونکہ یہ باتیں آپ میں نہ پائی جاتی تھیں اس لئے آپ بالکل درست طور پر اپنے نبی ہونے سے انکار کرتے تھے ہاں چونکہ لغت میں نبی کے لئے ان شرطوں میں سے کوئی شرط مقرر نہیں اس لئے آپ یہ فرما دیتے تھے کہ میرا نام لغوی طور پر نبی رکھا گیا ہے۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۲۵، انوار العلوم ج ۲ ص ۲۴۸)

(۱۷۰) پہلا قول: مرزا عوامی اصطلاح کے مطابق مجازی نبی ہے:

”اگر عوام محاورہ کو دیکھیں تو ان کے ہاں نبی بے شک اسی کو کہتے ہیں جو شریعت جدیدہ لائے یا بلا واسطہ نبوت پائے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام اپنی نادانی سے نبی کو حقیقت بتاتے ہیں اس کے لحاظ سے حضرت مسیح موعود پر نبی کا لفظ مجازاً استعمال ہوتا ہے مگر اس کے معنی صرف یہ ہوں گے کہ آپ عوام کی

اصطلاح کی رو سے نبی نہ تھے یعنی شریعت جدیدہ نہ لائے تھے اور یہ معنی نہ ہوں گے آپ شریعت کے معنوں سے بھی مجازی نبی تھے۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۶۷-۱۶۸، انوار العلوم ج ۲ ص ۲۸۷-۲۸۸)

دوسرا قول: مرزا اپنی خود ساختہ اصطلاح کے مطابق مجازی نبی ہے:

”خلاصہ کلام یہ کہ مجازی نبی کے لفظ سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں کہ آپ شریعت اسلام کے مطابق نبی نہ تھے بلکہ اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ آپ نے حقیقی نبی کو جو اصطلاح مقرر فرمائی ہے اور خود ہی اس کے معنی بتا دیے ہیں وہ اصطلاح آپ پر صادق نہیں آتی اور اس اصطلاح کی رو سے آپ کے مجازی نبی ہونے کے صرف یہ معنی ہیں کہ آپ کوئی نبی شریعت نہیں لائے اور نہ براہ راست نبی بنے ہیں نہ یہ کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۷۲، انوار العلوم ج ۲ ص ۲۹۳)

تجزیہ: قول اول کے مطابق مرزا صاحب نادان عوام کی اصطلاح کے لحاظ سے مجازی نبی ہیں اور قول ثانی کے مطابق اپنی خود ساختہ اصطلاح کے لحاظ سے۔

(۱۷۱) پہلا قول: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے نبوت ملتی ہے:

”اور یہی محبت تو ہے جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ باب نبوت کا بکلی بند ہونے کے عقیدہ کو جہاں تک ہو سکے باطل کروں کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے بیشک اگر یہ مانا جائے کہ کوئی شخص ایک ایسی شریعت لایا ہے جو قرآن کریم کو منسوخ کر دے گی تو اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آئے گا جو آپ کی اطاعت کے بغیر انعام نبوت پائے گا تو اس میں بھی آپ کی ہتک ہے کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا فیضان کمزور ہے کہ آپ کی موجودگی میں براہ راست فیضان کی حاجت پیش آئی لیکن اسی طرح اس عقیدہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ہے یہ نان لیا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیضان ناقص اور آپ کی تعلیم کمزور ہے کہ اس پر چل کر انسان اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات نہیں پاسکتا دنیا میں وہی استاد لائق کہلاتا ہے جس کے شاگرد لائق ہوں اور وہی افسر معزز کہلاتا ہے جس کے ماتحت معزز ہوں یہ بات ہرگز خیر کے قابل نہیں کہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے اعلیٰ مراتب نہیں پائے بلکہ آپ کی عزت بڑھانے والی بات یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں میں سے ایک ایسا لائق ہو گیا جو دوسرے استادوں سے بھی بڑھ گیا۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۸۶، انوار العلوم ج ۲ ص ۵۰۳-۵۰۴)

دوسرا قول: اس کے خلاف:

”اس عبارت سے ظاہر ہے (ابن عربی کی عبارت، ناقل) کہ امت محمدیہ میں ایسے صاحب کمال لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو اس مقام تک پہنچے کہ جہاں سے رسالت کا بعثت ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوشان کی وجہ سے انہیں رسول کر کے مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ وہ اولیاء میں ہی شامل رہے گو جزوی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مظہر ہونے کی وجہ سے وہ رسولوں کے مشابہ ہو گئے۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۲۴۷-۲۴۸، انوار العلوم ج ۲ ص ۵۶۰)

تجزیہ: قول اول کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبوت جاری ہے اور قول ثانی کا خلاصہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کی وجہ سے کسی بھی ولی کو نبی کا مقام نہیں دیا گیا۔

(۱۷۲) پہلا قول: نبوت جاری ہے:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعثت انبیاء کو بالکل مسدود قرار دینے کا یہ مطلب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو فیض نبوت سے روک دیا اور آپ کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بند کر دیا۔ اب بتاؤ کہ اس عقیدہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ثابت ہوتے ہیں یا اس کے خلاف نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر اس عقیدہ کو تسلیم کیا جائے تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ آپ نعوذ باللہ دنیا کے لئے ایک عذاب کے طور پر آئے تھے اور جو شخص ایسا خیال کرتا ہے وہ لعنتی اور مردود ہے آپ سب دنیا کے لئے رحمت ہو کر آئے تھے اور آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ کے فیضان دنیا کے لئے اور بڑھ گئے پس جو شخص کہتا ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور آپ نے دنیا کو اس فیضان سے محروم کر دیا ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتا ہے۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۸۷، انوار العلوم ج ۲ ص ۵۰۴)

دوسرا قول: نبوت بند ہے:

”اور اگر امت محمدیہ میں نبوت ظلی نہ قرار دی جاتی تو ممکن تھا کہ ان میں سے بعض اعلیٰ استعدادوں والے محدث نبی بھی ہو جاتے لیکن اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کا درجہ بڑھ گیا ہے اس لئے وہ نبی نہ بن سکے۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۲۴۶، ۲۴۷)

(۱۷۳) پہلا قول: نبوت تدریجاً ملتی ہے:

”اس جگہ اس امر پر بھی کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایمان کا ہی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے اور تقویٰ میں ترقی کرتے

کرتے انسان اس رتبہ کو پہنچ جاتا ہے جسے نبی کہتے ہیں۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۵۰، انوار العلوم ج ۲ ص ۴۷۰)

دوسرا قول: مرزا تدریجاً نبی نہیں بنا:

”یہ غلط ہے کہ حضرت مسیح موعود تدریجاً نبی بنے تھے..... آپ کا دعویٰ

شروع ابتدا سے ہی نبیوں کا ساتھ تھا۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۵۶-۱۵۷، انوار العلوم ج ۲ ص ۴۷۶)



چودھواں باب:

مولوی محمد علی لاہوری بانی لاہوری قادیانی

گروپ کے تضادات

(۱۷۴) پہلا قول: مرزا صاحب نبی ہیں:

”ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جلد وہ زمانہ آئے کہ جب ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں پر سے پردے اٹھ جائیں اور ان کو اپنی مذہبی غلطیوں پر بصیرت اور معرفت حاصل ہو جائے اور ان کے سینے اس سچائی کو قبول کرنے کیلئے کھل جائیں جو دین اسلام تعلیم دیتا ہے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اتار کے ظہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اور اس کو ہندوستان کے مقدس نبی مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود میں خدا تعالیٰ نے پورا کر دکھایا۔“ (ریویو آف ریلیجنز ج ۳ نمبر ۱۱ ص ۴۱۱)

دوسرا قول: نبوت بند ہے:

”آگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے ہو۔“ (اخبار پیغام صلح ج ۲ نمبر ۱۱۹، بحوالہ علمی مجاہد ص ۸۱۹)

”اب آخری نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا جو اس قسم کی غلطی کو دور کر دے اس لئے خدا نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کا انتظام ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے انسانن نزلنا الذکرو انالہ لحافظون سو اس وعدہ خداوندی نے ختم نبوت کی دوسری وجہ کو بتا دیا۔“

(النبوة فی الاسلام ص ۸۲، از مولوی محمد علی لاہوری)

(۱۷۵) پہلا قول: مرزا صاحب نبی ہیں:

”پھر جب مسیح سے چھ سو برس بعد عیسائی دین پر اس قسم کی موت وارد ہوئی جس کو تیرہ سو برس کا عرصہ گزر چکا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت سرور کائنات، کاظم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا پھر اسی قانون اور ان تمام پیش گوئیوں کے مطابق جو قریباً ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں اپنے موعود مسیح کو قادیان میں نازل فرمایا ہے جن کا نام نامی حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہے۔“

(ریویو آف ریلیجنس ج ۶ نمبر ۴، ص ۵۵، ۱۹۱، بحوالہ علمی محاسبہ ص ۸۱۳)

دوسرا قول: حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں:

(۱) ”ساری امت محمدیہ نے لفظ خاتم النبیین سے ایک ایسے اجماعی رنگ میں جس کی نظیر بہت ہی کم نظر آتی ہے یہی مراد لی ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں اور عمارت نبوت کی آخری اینٹ۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۸۵)

(۲) ”اس حیثیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تشریحی غیر تشریحی کا کوئی جھگڑا نہیں مطلق نبوت ہی کسی کو نہیں مل سکتی کیونکہ جب اینٹ رکھنے کی جگہ ہی نہیں تو جیسے تشریحی نبوت کی اینٹ کے لئے جگہ نہیں ایسے ہی غیر تشریحی نبوت کی اینٹ کے لئے بھی جگہ نہیں۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۹۰)

(۱۷۶) پہلا قول: نبوت جاری ہے:

”یہ سلسلہ سچے معنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی نبی خواہ پرانا نبی ہو یا نیا آپ کے بعد ایسا نہیں آ سکتا جس کو نبوت بدوں آپ کے واسطہ کے مل سکتی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کے دروازے بند کر دیئے مگر آپ کے متبعین کامل کے لئے جو آپ کے رنگ مے رنگین ہو کر آپ کے اخلاق کاملہ سے ہی نور حاصل کرتے ہیں ان کے لئے یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔“

(ریویو آف ریلیجنس ج ۵ نمبر ۵ ص ۱۸۶)

دوسرا قول: نبوت بند ہے:

”لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشركين وحتى تعبد الاوثان وانه سيكون في امتی ثلثون كذابا باكلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبیین لانبی بعدی. اس حدیث کی رو سے جو شخص بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب ہے اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جو تمیں کذاب ہوں گے وہ تشریحی نبوت کے مدعی ہوں گے بلکہ مطلق نبوت کے مدعی لکھا ہے پس اس کی رو سے امت کے اندر ہو کر نبوت کا دعویٰ بھی کذاب کا کام ہے۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۸۹)

(۱۷۷) پہلا قول: نبوت جاری اور مرزا نبی ہے:

”ہمیں بھی اس وسیع دعا کے کرنے کا حکم ہے اهدنا الصراط المستقیم اور اس کی قبولیت بھی یقینی ہے کیونکہ اگر خدا وہ مدارج کو منعم علیہ لوگوں کو ملے کسی دوسرے کو دے سکتا ہی نہ تھا تو پھر ہمیں یہ دعا سکھانے کے لئے کیا معنی؟ مخالف خواہ کوئی ہی معنی کرے مگر ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے صدیق بنا سکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے مگر چاہیے مانگنے والا..... ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صادق تھا خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا پاکیزہ کی روح اس میں اپنے کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے اترتے جوش کیا اور اس کا اتر دنیا میں پھیلا۔ اس میں قوت قدسی

اور قوت جذب تھی۔“

(مخلص مولوی محمد علی لاہوری کی تقریر بمقام لاہور مندرجہ الحکم نمبر ۴۲ جلد ۱۲ مورخہ ۱۸

جولائی ۱۹۰۸ء بحوالہ علمی محاسبہ ص ۸۲۰-۸۲۱)

دوسرا قول: نبوت بند ہے اور مرزا نبی نہیں ہے:

”یہی وجہ ہے کہ ساری امت محمدیہ نے لفظ خاتم النبیین سے ایک ایسے اجتماعی رنگ میں جس کی نظیر بہت ہی کم نظر آتی ہے یہی مراد لی ہے کہ آپ سلسلہ نبوت کے آخری کڑی ہے اور عمارت نبوت کی آخری اینٹ۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۸۵)

”ایسا ہی ایک حدیث میں آیا ہے عن عقبہ بن عامر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر..... یہ حدیث بھی قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتی ہے کہ اس امت میں مطلق کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر اس امت میں کسی کے نبی ہونے کا امکان ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوئے مگر چونکہ حضرت عمر تو نبی نہیں اس لئے اور بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۹۱)

(۱۷۸) پہلا قول: مرزا نبی ہے:

”جو شخص تاریخ انبیاء پر نظر غائر ڈالے گا وہ دیکھ لے گا کہ ہمیشہ سے یونہی تجدید دین ہوتی چلی آئی ہے اور یہ کام ہمیشہ سے انبیاء کرتے چلے آئے ہیں انسانوں کو حقیقی نیکی اور پاکیزگی کی راہوں پر چلانا یہ فخر اسی قوم کو حاصل رہا ہے۔ اس اخیر زمانہ کے لئے تجدید دین کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک عظیم الشان ضلالت کے وقت میں جو اخیر زمانہ میں ظہور میں آنے والی ہے اپنے ایک نبی کو دنیا کی اصلاح کے لئے مامور کرے گا اور اس کا

نام مسیح موعود ہوگا۔ سوا ایسا ہی ہوا۔“

(ریویو آف ریلیجنس ج ۵ نمبر ۶ ص ۲۱۲ بحوالہ علمی محاسبہ ص ۸۱۴)

دوسرا قول: مرزا نبی نہیں ہے:

”قرآن کریم نے جس وضاحت سے ختم نبوت کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے وجوہات بھی بتا دیے کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بعد کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری نبی ہونے میں شبہ نہیں کر سکتا۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۸۸)

”یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا توڑنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو ماننا اور اس نبی کو آخری نبی قرار دینا یہ اسلام کی عمارت کو گزارنا ہے۔“

(الدبوة فی الاسلام ص ۱۱۰)

(۱۷۹) پہلا قول: مرزا نبی ہے:

”ہر ایک نبی نے جو خدا کی طرف سے آیا ہے دو باتوں پر زیادہ زور دیا ہے اول یہ کہ لوگ خدا پر ایمان لائیں اور دوسرا یہ کہ اس کی نبوت کو اور اس کے منجانب اللہ ہونے کو تسلیم کر لیں..... بعینہ اسی قدیم سنت الہی کے مطابق اللہ تالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو بھی مبعوث فرمایا۔“

(ریویو آف ریلیجنس ج ۴ نمبر ۱۲ ص ۲۶۵-۲۶۶)

دوسرا قول: نبوت بند ہے اور مدعی نبوت کذاب ہے:

”ان دونوں حدیثوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ ہرگز اس امت میں کھلا نہیں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ایک طرف اگر حضرت علیؓ کو حضرت ہارون سے مشابہت دے کر پھر بھی نبوت غیر تشریعی کا بھی اپنی بعد باقی رہنے سے انکار کیا ہے تو دوسری طرف

امت میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب کے نام سے پکارا ہے اور اس طرح امت میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کذاب کے نام سے پکارا ہے اور اس طرح ان دونوں حدیثوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت درجہ کے قرب کی نسبت رکھنے والا نبی نہیں ہو سکتا اور دوم جو شخص اس امت میں سے دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب ہے سوئم نبوت تشریحی اور غیر تشریحی یکساں بند ہے۔“

(النبوة فی الاسلام ص ۸۹)

(۱۸۰) پہلا قول: مرزا صاحب نبی ہیں:

”الغرض جو شخص ذرا بھی تدبر سے کام لے گا اس کو اس امر کے تسلیم کرنے میں ذرا بھی تامل نہ ہوگا کہ حضرت مرزا غلام احمد اسی پاک گروہ میں سے ایک عظیم الشان فرد ہے جو انبیاء کے نام سے ممتاز ہے۔“

(مولوی محمد علی لاہوری کا مصدقہ مضمون مندرجہ ریو یو آف ریلیجنز جلد ۹ نمبر ۱ بابت جولائی ۱۹۱۰ء بحوالہ علی مجاہد ص ۸۱۳)

دوسرا قول: نبوت بند ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے:

”اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر نبی نہیں۔“ (بیان القرآن جلد دوم ص ۱۰۳ طبع سوم)

”ان سے میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا وہ (یعنی قادیانی گروپ۔ ناقل) قرآن کو خاتم الکتب مانتے ہیں یا نہیں پس اگر قرآن خاتم الکتب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم الانبیاء ہوئے اور اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء نہیں تو پھر قرآن بھی خاتم الکتب نہیں اور اس کے بعد کسی اور کتاب کا آنا

ضروری ہوگا اور وہی خاتم الکتب ہوگی اور وہی نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔ اس صورت میں قرآن کا دعویٰ تکمیل ہدایت کا بھی نعوذ باللہ من ذلک غلط ماننا پڑے گا۔“ (النبوة فی الاسلام ص ۱۰۵)

(۱۸۱) پہلا قول: خاتم النبیین کا معنی انبیاء کے لئے مہر:

اگر آج نبوت کے برکات کسی پاک انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ قرآن شریف ہی کے ذریعہ سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ خاتم النبیین یعنی انبیاء کے لئے مہر ہیں اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر اپنے ساتھ نہ رکھتا ہو غرض نبوت کے برکات بند نہیں ہوئے بلکہ اب بھی ایسے ہی حاصل ہو سکتے ہیں جیسے کہ پہلے حاصل ہوتے تھے۔ (ریو یو آف ریلیجنز ص ۲۲۱ جولائی ۱۹۰۱ء)

دوسرا قول: خاتم النبیین کے معنی آخری نبی:

”انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتم یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا پس نبیوں کے خاتم کے معنی مہر نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔“

(بیان القرآن جلد دوم ص ۱۰۳ طبع سوم ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور)

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول النبیین خلقا و آخرهم بعثا نبی پیداؤں میں میں سب نبیوں سے اول ہوں اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر ہوں۔ اب اگر آپ کے بعد بھی سی نبوت کا مبعو ہونا مانا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مخالف ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں یا بعض صحابہ کے اقوال ہیں جن میں نبوت کے انقطاع کا ذکر ہے۔“ (النبوة فی الاسلام ص ۹۲)

(۱۸۲) پہلا قول: مرزا صاحب نبی ہیں:

”ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود مہدی معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے اور اس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابقت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضلہ نہیں چھوڑ سکتے۔“

(مولوی محمد علی لاہوری اور ان کے رفقاء کا اعلان مندرجہ پیغام صلح جلد اول نمبر ۳۵ مورخہ ۷ ستمبر ۱۹۱۳ء) (بحوالہ علمی محاسبہ ص ۸۲۷)

دوسرا قول: مرزا صاحب نبی نہیں ہیں:

”میں مرزا صاحب کو نبی قرار دینا نہ صرف اسلام کی ہی بیخ کنی سمجھتا ہوں بلکہ میرے نزدیک خود مرزا صاحب پر بھی اس سے بہت زد پڑتی ہے اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں مانتے تو میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک راہ ہے اور تم خطرناک غلطی کے مرتکب ہوتے ہو۔“

(پیغام صلح ۶ اپریل ۱۹۱۵ء بحوالہ علمی محاسبہ ص ۸۲۲)

”اور دس حدیثوں میں ہے لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایسی حدیثیں جن میں آپ کو آخری نبی کہا گیا ہے چھ ہیں۔ اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت صلعم کے آخری نبی ہونے سے انکار کرنا بدینات اور اصول دینی سے انکار ہے۔“

(بیان القرآن جلد دوم ص ۱۰۳ طبع سوم از مولوی محمد علی لاہوری)

(۱۸۳) پہلا قول: دو بعثتیں:

”قرآن شریف اور حدیث نبوی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں یاد و ظہور ہیں اور آپ کے دوناموں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ہی دو بعثتوں کی طرف اشارہ ہے۔“

(ریویو آف ریلیجنس ج ۸-۵-۱۷۴، بحوالہ علمی محاسبہ ص ۵۱۸)

دوسرا قول: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں:

”اور جو شخص تکمیل ہدایت کا مدعی ہو اس کے بعد بیشک نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور وہی آخری نبی دنیا کا قرار پانا چاہیے کیونکہ اس کے وجود سے اصل غرض پوری ہو جاتی ہے..... اس روح حق نے اپنا پیغام پورے طور پر دنیا کو پہنچا کر آخریہ اعلان کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں ایک ہی اعلان ہے اور ایک ہی رہے گا جس کے مقابل نہ کبھی کسی نے آواز اٹھائی نہ کوئی اٹھا سکے گا الیوم المکت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن (ہاں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا دن تھا) میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ شریعت بھی کامل ہو گئی اور ہدایت بھی تمام و کمال آ گئی۔“ (الدعوة فی الاسلام ص ۸۰-۸۱)

پہلا قول: نبوت جاری ہے:

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کے حوالہ سے لکھا ہے ”ہمیں بھی اس وسیع دعا کے کرنے کا حکم ہے اور اس کی قبولیت بھی یقینی ہے۔ مخالف خواہ کوئی ہی معنی کرے مگر ہم تو اس بات پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے۔ صدیق شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے۔ مگر چاہیے مانگنے والا۔“

(الحکم ۱۸ جولائی ۱۹۰۸ء ص ۶)

دوسرا قول: نبوت بند ہے:

”اس میں کچھ شک نہیں کہ امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی

ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری قوموں کے لئے ایک ہی نبی ہیں اسی طرح سارے زمانوں کے لئے ایک ہی نبی ہیں۔ آپؐ کی نبوت کا دامن ایک طرف کل قوموں کو اپنے نیچے لئے ہوئے ہے دوسری طرف کل زمانوں پر ممتد ہے اور اب قیامت تک کسی دوسرے کو یہاں قدم رکھنے کی گنجائش نہیں۔“ (الدعوة فی الاسلام ص ۱۱۰)

پہلا قول:

”ہم حضرت مسیح موعود مہدی معبود علیہ السلام کو اس زمانہ کا نبی رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں جو درجہ حضرت مسیح موعود نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب ایمان سمجھتے ہیں۔“ (بحوالہ علمی مجاہد ص ۸۲)

دوسرا قول:

”ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ دنیا میں جو غرض انبیاء و رسل کی بعثت کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں اپنے کمال کو پہنچ کر پوری ہو گئی اور جب غرض پوری ہو گئی تو اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی حاجت باقی نہ رہی۔“ (الدعوة فی الاسلام ص ۷۴)

مرزا قادیانی کی تفسیر اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ:

”خدا کے کلام کو غور سے پڑھو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے وہ وہی امر تم سے چاہتا ہے جس کے بارہ میں سورت فاتحہ میں تمہیں دعا سکھائی ہے یعنی یہ دعا اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ پس جب کہ تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پنج وقت یہ دعا کرو کہ وہ نعمتیں جو نبیوں اور رسولوں کے پاس ہیں وہ تمہیں بھی ملیں پس تم بغیر نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ کے وہ

نعمتیں کیونکر پاسکتے ہو لہذا ضرور ہوا کہ تمہیں یقین اور محبت کے مرتبہ پر پہنچانے کے لئے خدا کے انبیاء وقتاً فوقتاً بعد وقت آتے رہیں جن سے تم وہ نعمتیں پاؤ۔“ (لیکچر سیالکوٹ ص ۳۲، روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۲۲)

مولوی محمد علی لاہوری کی تفسیر:

”اگر اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کو حصول نبوی کی دعا مانا جائے تو ماننا پڑے گا کہ تیرہ سو سال میں کسی مسلمان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ (چند سطروں کے بعد لکھا ہے) پس مقام نبوت کے لئے دعا کرنا ایک بے معنی فقرہ ہے اور اس شخص کے منہ سے نکل سکتا ہے جو اصل دین سے ناواقف ہو۔“ (بیان القرآن تفسیر سورت فاتحہ)

☆☆☆

پندرہواں باب:

مرزائی خلفاء و معتقدین کا مرزا قادیانی سے اختلاف

(۱۸۷) مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت:

”میں مسیح موعود ہوں اور وہی ہوں جس کا نام سرور انبیاء نے نبی اللہ رکھا

ہے۔“ (نزول المسیح ص ۴۸، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۴۲۶)

مولوی محمد علی لاہوری کا نظریہ:

”وہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا توڑنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

کسی نبی کے آنے کو ماننا اور اس نبی کو آخری نبی قرار دینا یہ اسلام کی عمارت کو

گرا نا ہے۔“ (الدعوة فی الاسلام ص ۱۱۰)

(۱۸۸) مرزا کا قول:

”اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول ابد الابد کے لئے صرف محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ (ملفوظات جلد اول ص ۴۱۴)

مرزا کے پوتے کا قول:

”ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں دنیا کی نجات

محمدیت میں ہی ہے۔“

(مرزا رفیع احمد صدر مجلس خدام الاحمدیہ کا خطاب مندرجہ ماہنامہ خالد ربوہ ۱۳ جولائی

۱۹۶۶ء بحوالہ مرزا نیل ص ۱۱۲۵ از آغا شورش کاشمیری)

(۱۸۹) مرزا قادیانی کا قول:

”اور جو شخص رسول اللہ کہلاتا ہے اس کا کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور

امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی رو سے بالکل ممنوع ہے اللہ جل شانہ فرماتا

ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ یعنی ہر ایک رسول مطاع

اور امام بنانے کے لئے بھیجا جاتا ہے اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی

دوسرے کا مطیع ہو۔ (ازالہ ابہام جلد ۲ ص ۵۶۹ روحانی خزائن ج ۳ ص ۴۰۷)

مرزا محمود احمد ابن مرزا قادیانی کا قول:

”بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کسی دوسرے کا تابع نہیں ہو سکتا اور

اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وما ارسلنا

من رسول الا لیطاع باذن اللہ اور اس آیت سے حضرت مسیح موعود کی

نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں لیکن یہ بسبب قلت تدبیر ہے۔

(حقیقۃ النبوة ص ۱۱۵۵ از مرزا محمود احمد، انوار العلوم ج ۲ ص ۴۷۴)

(۱۹۰) مرزا قادیانی کا قول:

”انبیاء اس لئے آتے ہیں تاکہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل

کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کر دیں اور بعض احکام کو منسوخ کر دیں

اور بعض نئے احکام لادیں۔“

(آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳۹، روحانی خزائن ج ۵ ص ۳۳۹)

مرزا محمود احمد کا قول:

”نادان مسلمانوں کا خیال تھا کہ نبی کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ کوئی نئی

شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے کچھ منسوخ کر دے یا بلا واسطہ نبوت پائے

لیکن اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کے ذریعے اس غلطی کو دور کروایا۔ اور بتایا کہ یہ

تعریف قرآن کریم میں تو نہیں۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۳۳، انوار العلوم جلد ۲ ص ۴۵۶)

(۱۹۱) مرزا کا قول:

”قرآن شریف کا قانون آسمانی نجات کا ذریعہ ہے اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہوگا تعجب ہوگا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے لئے وہی روار کھتے ہیں مجھے اور بھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقعہ محرف و مبدل ہیں وہ تو کوشش کریں کہ تحریف ثابت نہ ہو اور ہم خود تحریف کی فکر میں ہیں۔“

(ملفوظات جلد ۷ ص ۱۶۸)

مرزا بشیر احمد ایم اے کا قول:

”نبی کریم نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ان کے درمیان سے قرآن اٹھ جائے گا اور ایمان ثریا پر چلا جائے گا تب ایک شخص کو خدا کھڑا کرے گا جو مکشودہ قرآن کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور امت محمدیہ کس پھر شریعت اسلام پر قائم کرے گا پس اب معاملہ صاف ہے چونکہ قرآن کو کسی نبی کے ذریعہ بیرونی دلائل کی ضرورت نہیں اس لئے جب تک وہ دنیا میں موجود رہا تو کوئی نبی مبعوث نہ کیا گیا لیکن جب قرآن شریف حسب پیشگوئی مجرصادق لی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مفقود ہو گیا تب ضرورت پیش آئی کہ ایک نبی کو بھیج کر اس پر دوبارہ قرآن کریم اتارا جائے تاکہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو اور یہ نبی کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو برزوی رنگ میں دنیا میں آیا۔ (کلمۃ الفصل ص ۱۱۵، ۱۱۶ از مرزا بشیر احمد ایم اے)

(۱۹۲) مرزا صاحب کا قول:

کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ

ترجمہ: تیری بخششوں نے ہمیں گستاخ کر دیا۔

(حاشیہ براہین احمدیہ ص ۵۵۵-۵۵۶، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۲۲)

مرزا محمود احمد کا قول:

”نادان ہے وہ شخص جس نے کہا کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ۔ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرمانبردار بناتے ہیں۔“ (قول مرزا محمود مندرجہ روزنامہ الفضل قادیان ۲۳ جنوری ۱۹۲۷ء)

(۱۹۳) مرزا کا قول:

”ایسا ہی آپ نے لابی بعدی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا دروازہ قطعاً بند کر دیا۔“ (ایام الصلح ص ۵۲، روحانی خزائن ج ۱ ص ۴۰۰)

مرزا محمد احمد کا قول:

”پس یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۲۲۸، انوار العلوم ج ۲ ص ۵۴۲)

(۱۹۴) مرزا قادیانی کا قول:

”میں نبی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا۔“ (آئینہ کمالات اسلام ص ۳۸۳، روحانی خزائن ج ۵ ص ۳۸۳)

مرزا محمود احمد کا قول:

”اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبوت مل سکتی ہے اور جب نبوت مل سکتی ہے تو مسیح موعود نبی ہوئے نہ کہ محدث۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۲۳۰، انوار العلوم ج ۲ ص ۵۴۲)

(۱۹۵) مرزا قادیانی کا قول:

”پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ

کاملہ تامہ مطہرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فی الرسول کی حالت تک اتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان میں نہ رہا اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجہ پران میں پائے گئے ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کی محویت کے آئینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف اتم اور اکمل پس اس پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی کا خطاب پایا۔

(الوصیت ص ۱۰ روحانی خزائن ج ۲۰ ص ۳۱۲)

مرزا محمد احمد کا قول:

”پس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت تک اس امت میں کوئی اور شخص نبی نہیں گزرا۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۳۸، انوار العلوم ج ۲ ص ۲۶۰)

(۱۹۶) مرزا کا قول:

”کبھی یہ ہم کلامی کا مرتبہ بعض ایسے مکمل لوگوں کو ملتا ہے کہ نبی تو نہیں مگر نبیوں کے متبع ہیں اور جو شخص کثرت سے شرف ہم کلامی کا پاتا ہے اس کو محدث بولتے ہیں۔“

(ازالہ ابہام ص ۹۱۵ روحانی خزائن ج ۳ ص ۶۰۱)

مرزا محمد احمد کا قول:

”جو تعریف نبی کی میں اوپر کر چکا ہوں اس سے ثابت ہے کہ امور غیبیہ پر کثرت سے اطلاع پانا غیر نبی میں پایا ہی نہیں جاتا۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۷۹-۸۰، انوار العلوم ج ۲ ص ۴۱۷)

(۱۹۷): مرزا قادیانی کا قول:

”سمیت نبیا من اللہ علی طریق المجاز لا علی وجہ الحقیقۃ۔“

ترجمہ: ”اور میرا نام اللہ کی طرف سے مجازی طور پر نبی رکھا گیا ہے نہ کہ حقیقی طور سے۔“ (ضمیمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۵، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۶۸۹)

مرزا محمد احمد کا قول:

”پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۷۴، انوار العلوم جلد دوم ص ۴۹۳)

(۱۹۸) مرزا قادیانی کا قول:

”قرآن شریف میں ہے ولا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول یعنی کامل طور پر غیب کا بیان کرنا رسولوں کا کام ہے دوسروں کو یہ مرتبہ عطا نہیں ہوتا رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث یا مجدد ہوں۔“

(ایام الصلح حاشیہ ص ۱۷۱، روحانی خزائن ج ۱۳ ص ۴۱۹)

مرزا محمود کا قول:

”پانچویں دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جو تعریف قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے وہ آپ پر صادق آتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول۔ اللہ تعالیٰ نہیں غالب کرتا اپنے غیب پر مگر اپنے پسندیدہ بندوں یعنی رسولوں کو یعنی کثرت سے امور غیبیہ کا اظہار رسول پر ہی کرتا ہے۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۲۰۲-۲۰۳، انوار العلوم ج دوم ص ۵۱۸)

تجزیہ: مرزا صاحب نے کہا کہ فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول میں رسول کا لفظ عام ہے جس میں نبی، رسول محدث اور مجدد سب داخل ہیں اور اس

کے بیٹے مرزا محمود احمد نے کہا ہے کہ اس آیت میں رسول سے رسول ہی مراد ہے نبی مجدد وغیرہ اس میں داخل نہیں ہیں۔

(۱۹۹): نبوت کی پہلی تعریف از مرزا قادیانی:

”حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کیے ہوں لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہر لگ گئی کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی۔“

(ازالہ اوہام ص ۲۶۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۸۷)

مرزا محمود احمد کا قول:

”میں مانتا ہوں کہ پہلی تعریف کو بھی اسلامی اصطلاح کہا ہے لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم سے کوئی تعلق دلیل نہیں دی مگر بعد میں جو تعریف کی اس کے لئے قرآن کریم سے استدلال کیا۔“

(حقیقۃ النبوة ص ۱۳۲، انوار العلوم ج ۲ ص ۴۵۵)

وضاحت: مرزا قادیانی نے نبوت کی جو تعریف بھی کی اس کے لئے قرآن مجید سے استدلال کیا کلام الہی میں تحریف کی جیسا کہ لیکن مرزا محمود کہتا ہے کہ مرزا نے نبوت کی قدیم تعریف کے لئے قرآن مجید سے استدلال نہیں کیا بلکہ صرف جدید (خود ساختہ) تعریف کے لئے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے۔

(۲۰۰): مرزا قادیانی کا قول:

”یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعویٰ میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن اس خیال میں غلطی پر ہیں میرا ایسا دعویٰ نہیں۔“ (حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴)

مرزا محمود احمد کا قول:

”میں حضرت مرزا صاحب کی نبوت کی نسبت لکھ آیا ہوں کہ نبوت کے حقوق کے لحاظ سے وہ ایسی ہی نبوت ہے جیسے اور نبیوں کی۔ صرف نبوت کے حاصل کرنے کے لئے طریقوں میں فرق ہے پہلے انبیاء نے بلا واسطہ نبوت پائی اور آپ نے بالواسطہ۔“ (القول الفصل ص ۳۳، انوار العلوم ج ۲۹۳)

(۲۰۱): مرزا قادیانی کا قول:

بزرگمان ووہم سے احمد کی شان ہے
جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے

(حقیقۃ الوحی ص ۲۷۲، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۸۶)

مرزا بشیر احمد ایم اے کا قول:

”پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔“

(کلمۃ الفصل ص ۱۱۳، از مرزا بشیر احمد ایم اے)

(۲۰۲): مرزا قادیانی کا قول:

”یہ کیفیت تمام دنیا میں صرف ایک ہی انسان کو ملی ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیت کا ختم ہو گیا جس کا دوسرے لفظوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ مقام عالی ہے کہ میں اور مسیح دونوں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اس کا نام مقام جمع اور مقام وحدت ہے۔“ (توضیح المرام ص ۳۷، روحانی خزائن ج ۳ ص ۶۴)

مرزا محمود احمد کا قول:

”میرا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود اس قدر رسول کریم کے نقش قدم پر چلے کہ وہی ہو گئے لیکن کیا شاگرد اور استاد کا ایک مرتبہ ہو سکتا ہے گوشا گرد علم

کے لحاظ سے استاد کے برابر بھی ہو جائے..... ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول کریم کے ذریعہ ظاہر ہوا تھا وہی مسیح موعود نے ہمیں دکھلایا۔ اس لحاظ سے برابر بھی کہا جاسکتا ہے۔“ (ذکر الہی ص ۱۹، انوار العلوم ج ۳ ص ۴۱۷)

(۲۰۳) مرزا قادیانی کا قول:

”اس جگہ میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ رسول اور نبی اللہ ہے یہ اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پر ہے۔“ (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ حاشیہ ص ۲۴، روحانی خزائن ج ۱ ص ۶۱)

مرزا محمود احمد کا قول:

”اور حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ مجھے غیب پر کثرت سے اطلاع دی جاتی ہے پس ثابت ہوا کہ اسلام کی اصطلاح کی رو سے حضرت مسیح موعود ہرگز مجازی نبی نہیں۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۱۷۷، انوار العلوم جلد دوم ص ۴۹۵)

(۲۰۴) مرزا قادیانی کا قول:

”نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔“ (ازالہ ابہام ص ۴۴۲، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۲۰)

مرزا محمود احمد کا قول:

”حضرت مسیح موعود محدثیت کی جزوی نبوت سے اوپر کسی اور نبوت کے مدعی ہیں۔“ (حقیقۃ النبوة ص ۲۳۵)

(۲۰۵) مرزا قادیانی کا قول:

”پس جب تک میرے اس دعویٰ کے مقابل پر انہیں صفات کے ساتھ کوئی دوسرا مدعی پیش نہ کیا جائے تب تک میرا یہ دعویٰ ثابت ہے کہ وہ مسیح موعود جو

آخری زمانہ کا مجدد ہے وہ میں ہی ہوں۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۹۴، روحانی خزائن ج ۲ ص ۲۰۱)

مرزا محمود احمد کا قول:

”پس اس انکار سے فائدہ اٹھا کر یہ اعلان کرنا کہ حضرت مسیح موعود مجددوں میں سے ایک مجدد ہیں اور ماموروں میں سے ایک مامور ہیں اور ایسے نبی ہیں جیسے کہ اور بزرگ نبی کہلا سکتے ہیں سخت ظلم اور تعدی ہے۔“ (القول الفصل ص ۷، انوار العلوم جلد دوم ص ۲۷۰)

(۲۰۶) مرزا قادیانی کا قول:

”میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس یا سترہویں برس میں تھا اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔“ (کتاب البریہ حاشیہ ص ۱۵۹، روحانی خزائن جلد ۱ ص ۱۱۷)

مریدین اور بیٹوں کے اقوال

مرزا بشیر احمد ایم اے کی تحقیق:

(پہلی تحقیق):

”۱۸۳۶ء تا ۱۸۳۷ء ولادت حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔“

(سیرت المہدی ج ۲ ص ۱۵۰، روایت نمبر ۴۶۷)

(دوسری تحقیق):

”پس ۱۳ فروری ۱۸۳۵ عیسوی مطابق ۱۳ شوال ۱۲۵۰ ہجری بروز جمعہ والی تاریخ صحیح قرار پائی ہے۔“ (سیرت المہدی حصہ سوم ص ۶۷، روایت نمبر ۶۱۳)

(تیسری تحقیق):

”بعض اندازوں کے لحاظ سے آپ کی پیدائش کا سال ۱۸۴۰ء بنتا ہے اور بعض کے لحاظ سے ۱۸۳۱ء تک پہنچتا ہے۔“

(سیرت المہدی حصہ سوم ص ۷۴، روایت نمبر ۶۱۳)

(چوتھی تحقیق):

”میرے نزدیک ان سے بڑھ کر جس مخالف کا علم ہونا چاہیے وہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہیں جن کو بچپن سے ہی آپ سے ملنے کا موقع ملتا رہا ہے۔ ان کے اشاعت السنۃ ۱۸۹۳ء کے حوالہ سے آپ کی پیدائش ۱۸۳۰ء کے قریب بنتی ہے۔“

(سیرت المہدی حصہ سوم ص ۱۹۴، روایت نمبر ۷۶۳)

(۲۰۷) مرزا بشیر احمد ایم۔ اے:

”بیشک اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو علماء امتی کا نبیاء نبی اسرائیل کے حکم کے ماتحت انبیائے نبی اسرائیل کے ہم پلہ تھے لیکن ان میں سوائے مسیح موعود کے کسی نے بھی نبی کریم کی اتباع کا اتنا نمونہ نہیں دکھایا کہ نبی کریم کا کامل ظل کہلا سکے اس لئے نبی کہلانے کے لئے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا۔“ (کلمۃ الفصل ص ۱۱۶)

مرزا قادیانی کا فعل:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مرزا قادیانی کی چند گستاخیاں:

(الف) ”خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لئے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔“

(تحفہ گولڑویہ حاشیہ ص ۷۰، روحانی خزائن ج ۱ ص ۲۰۵)

(ب) ”مرزا کے معجزات ۱۰ لاکھ ہیں۔“

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۷۲، روحانی خزائن جلد ۲ ص ۷۲)

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہزار معجزات ہیں۔“

(تحفہ گولڑویہ ص ۶۷، روحانی خزائن جلد ۷ ص ۱۵۳)

کیا حضور علیہ السلام کی اتباع ایسی ہوا کرتی ہے؟

(۲۰۸) مرزا قادیانی کا قول:

”اور خدا فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں یہ آیت بتاتی ہے کہ سارے اگلے نبی فوت ہو چکے ہیں اسی آیت کو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنایا جب انہوں نے اختلاف کیا یعنی جب بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آنحضرت اسی طرح واپس آئیں گے کہ جیسے عیسیٰ واپس آئے گا اور اسی طرح اور بعض خطا کاروں نے بھی کہا۔“

(خطبہ الہامیہ ص ۲۲۸-۲۲۹، روحانی خزائن جلد ۶ ص ۱۶، ۲۲۹-۲۲۸)

(تحفہ غزنویہ ص ۵۰، روحانی خزائن جلد ۱۵ ص ۵۸۰، پر بھی یہی مضمون ہے)

مرزا محمود احمد کا قول:

”تیسرا امر اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی اور نبی کی وفات کا ان کو یقین تھا یا نہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انہیں یقیناً کوئی علم نہ تھا کیونکہ جیسا کہ تمام صحیح احادیث اور معتبر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر سخت جوش کی حالت میں تھے اور باقی صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میں اس کا سراڑا دوں گا اس وقت اپنے خیال کے ثبوت میں حضرت موسیٰ کے چالیس دن پہاڑ پر چلے

جانے کا واقعہ تو وہ پیش کرتے تھے مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر چلے جانے کا واقعہ انہوں نے ایک دفعہ بھی پیش نہ کیا۔ اگر صحابہ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ جا بٹھے ہیں تو کیا حضرت عمر یا ان کے ہم خیال صحابی اس واقعہ کو اپنے خیال کی تائید میں پیش نہ کرتے ان کا حضرت موسیٰ کے واقعہ سے استدلال کرنا اور اس واقعہ سے استدلال نہ کرنا بتاتا ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی ایسا واقعہ تھا ہی نہیں۔“

(دعوت الایمیں ص ۱۹ مصنف مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان، انوار العلوم جلد نمبر ۷ ص ۳۴۷)

(۲۰۹): مرزا قادیانی کا قول:

”یہ بات ہمارے عقائد میں داخل ہے کہ عیسیٰؑ اور یحییٰؑ دونوں خرق عادت کے طور پر پیدا ہوئے ہیں اور اس ولادت میں کوئی استبعاد عقلی نہیں ہے۔“

(مواہب الرحمن ص ۷۰، روحانی خزائن ج ۱۹ ص ۲۸۹)

مولوی محمد علی لاہوری کا قول:

”اگر معجزانہ پیدائش سے یہ مراد ہے کہ حضرت مسیح بن باپ پیدا ہوئے تو قرآن کریم نے یہ نہیں لکھا کہ اگر کہا جائے کہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے تو دعویٰ قرآن کریم دے دلیل دینے کا تھا مگر نہ صرف قرآن کریم میں یہ ذکر نہیں کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے بلکہ کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی۔“

(حقیقت مسیح ص ۸، بحوالہ غلبہ حق از قاضی نذیر قادیانی)

ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی کا قول:

”ہم کسی عورت کی نیکی کے ادعا کے باوجود کبھی نہیں مان سکتے کہ وہ بغیر مرد کے حاملہ ہوگئی ہے خواہ وہ عورت کتنی ہی پارسا اور صاحب عفت و عصمت ہو اور

خواہ وہ بیت المقدس اور کعبہ کے اندر رہی رہتی ہو۔ وہ لاکھ دفعہ کہے کہ میں بغیر مرد کے حاملہ ہوئی ہوں مگر ہم اسے جھوٹا ہی سمجھیں گے۔“

(ولادت مسیح ص ۲، بحوالہ غلبہ حق ص)

(۲۱۰): مرزا قادیانی کا قول: (آیت آخرین منہم کی تفسیر)

”رجل فارس اور مسیح موعود کی ایک ہی شخص کے نام ہیں جیسا کہ قرآن شریف نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا..... بہر حال یہ آیت آخری زمانہ میں ایک نبی کے ظاہر ہونے کے متعلق ایک پیش گوئی ہے۔“

(تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۶۷ روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۲-۵۰۱)

مولوی محمد علی لاہوری کا قول: (اس کے خلاف)

”حدیث کا منشا یہ نہیں کہ آخرین منہم صرف فارسیوں میں سے ایک یا چند آدمی ہیں بلکہ یہ آخرین کی مدح کے طور پر آیا ہے کہ دوسرے لوگ جنہوں نے مجھ سے براہ راست تعلیم نہیں پائی۔“

”بلکہ وہ مجھ سے بعد میں آئیں گے اور میری تعلیم سے فائدہ اٹھائیں گے قرآن میں ایسے کامل الایمان لوگ بھی ہوں گے اور یوں آخرین منہم میں کل امت صحابہ کے بعد اول سے لے کر آخر تک شامل ہیں گویا ایک تو نبی کریم کے صحابہ ہیں جن کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمائے ہیں کہ ان میں بھی بڑے بڑے کامل الایمان لوگ ہوں گے اور یہ آیت نص صریح اس بات پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی نہیں

آسکتا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسکتے ہیں۔“ (بیان القرآن ص ۴۸۴)

(۲۱۱) مرزا قادیانی کا قول

”پس اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ ماکنا معذبین حتیٰ کے نبعث رسول اللہ رسول نہیں بھیجتا یہی سن اللہ ہے اور ظاہر ہے یورپ اور امریکہ میں کوئی رسول پیدا نہیں ہوا۔ پس ان پر جو عذاب نازل ہوا صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔“

(تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۵۳، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۴۸۷)

مولوی محمد علی لاہوری کا قول:

”جو لوگ ان الفاظ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کوئی عذاب نہیں آتا جب تک پہلے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا جائے تو وہ غلطی کرتے ہیں پھر اگر رسول کی ضرورت ہے تو عین اس مقام پر جہاں عذاب آئے مثلاً جنگ کا عذاب یورپ میں آئے یا کوئی بھاری زلزلہ اٹلی میں آئے اور اس سے یہ دلیل لی جائے کہ اس وقت کوئی رسول مبعوث ہو گیا ہے تو پھر ایسے رسول کا ہندوستان میں آنا خدائے حکیم کا فضل نہیں ہو سکتا جس میں حکمت کچھ بھی نہیں وہ رسول یورپ یا اٹلی میں آنا چاہیے تھا..... ایسی باتیں کرنا گویا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مذہب علم نہیں بلکہ ایک کھیل ہے۔“

(بیان القرآن ص ۱۱۷، ۱۱۸)

(۲۱۲) مرزا قادیانی کا قول:

”جو شخص مجھے سچے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا تو اس میں نخوت، خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے پس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے کیونکہ وہ میری باتوں کو جو

مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا اس لئے آسمان پر اس کی عزت نہیں۔“ (اربعین نمبر ۳ حاشیہ ص ۳۴، روحانی خزائن ج ۱ ص ۷۱۷)

لاہوری گروپ کا قول:

”اگر امام (یعنی مسیح موعود۔ ناقل) بھی ہم سے وہ بات منوانی چاہیے جس کی قرآن وحدیث میں سند نہیں تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔“ (پیغام صلح جلد نمبر ۳ شمارہ نمبر ۵)

(۲۱۳) خاتم النبیین کا معنی از مرزا قادیانی:

”اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا یعنی آپ کو کمال کے لئے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشی ہے اور آپ کی روجہ روحانی نبی تراش ہے یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔“

(حقیقۃ الوحی حاشیہ ص ۹۷ روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۰)

آیت خاتم النبیین کی تفسیر از ممتاز احمد فاروقی (قادیانی)

”خاتم النبیین کے لفظ کے دو ہی مفہوم ہیں اول یہ کہ آپ آخری نبی ہیں اور دوسری یہ کہ آپ کی اتباع سے وہ کمالات آئندہ بلا انقطاع ملا کریں گے جو پہلے متفرق نبیوں کی وساطت سے ملتے تھے۔“ (فتح حق ص ۱۰ بحوالہ غلبہ حق ص)

(۲۱۴) مرزا قادیانی کا قول:

”میں تو خدا کی پیروی کرنے والا ہوں جب تک کہ مجھے اس سے علم نہ ہوا میں وہی کہتا رہا جو اوائل میں میں نے کہا اور جب مجھ کو اس کی طرف سے علم ہوا تو میں نے اس کے مخالف کہا میں انسان ہوں مجھے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں۔ بات یہی ہے جو شخص چاہے قبول کرے یا نہ کرے۔“

(حقیقۃ الوحی ص ۱۵۰ روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۴)

ممتاز احمد قادیانی کا قول:

”مرزا محمود احمد خلیفہ قادیان و حال ربوہ نے اپنے عالمانہ خیالات اور عقائد کو تقویت دینے کے لئے ایک بیہودہ دلیل پیش کی تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1901ء تک جب اپنے اصلی دعویٰ یا مقام کو پورے طور پر نہیں سمجھے تھے مگر 1901ء کے بعد جب سمجھ آئی تو کتاب ”ایک غلطی کا ازالہ“ کے ذریعہ اپنے اصلی مقام یا دعوے نبوت کو واضح کیا، یہ بات حضرت مرزا صاحب کی سخت تحقیر کرتی ہے اور ان کو نعوذ باللہ کم عقل اور دھوکے باز ظاہر کرتی ہے۔“ (فتح حق ص ۱۷ بحوالہ غلبہ حق ص)

(۲۱۵): مرزا قادیانی کا قول:

(۱) ”خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افادہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لئے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔“

(ہفتیۃ الوحی حاشیہ ص ۱۵۰، روحانی خزائن ج ۲۲ حاشیہ ص ۱۵۲)

(۲) ”میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا۔“

(تمتہ ہفتیۃ الوحی ص ۶۸، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

لاہوری گروپ کا قول:

”نبی کی وحی سابقہ شریعت یا کتاب میں ترمیم تنبیخ کر سکتی ہے امتی کی وحی نہیں کر سکتی وحی نبوت تکمیل ہدایت کرتی ہے مگر ہدایت چونکہ قرآن کریم میں کامل ہو چکی ہے اس لئے مسیح موعود کی وحی نبوت نہیں۔“

(فتح حق ص ۲۱-۲۲، بحوالہ غلبہ حق ص)

سولہواں باب:

متفرق تضادات

(۲۱۶) پہلا قول: ۱۸۹۵ء میں چالیس کروڑ

”اس زمانے میں چالیس کروڑ لا الہ الا اللہ کہنے والے موجود ہیں۔“

(نور القرآن حاشیہ ص ۱۰، روحانی خزائن ج ۳۳۹ ص ۳۳۹ تصنیف، ۱۸۹۵ء)

دیگر اقوال:

۱۸۹۵ء میں چورانوے کروڑ:

”سو وہ جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی امت کی تعداد انگریزوں نے سرسری مردم شماری میں بیس کروڑ لکھی تھی مگر جدید تحقیقات کی رو سے معلوم ہوا کہ دراصل مسلمان روئے زمین پر چورانوے کروڑ ہیں۔“

(ست پگن ص ۶۷، روحانی خزائن ج ۱۰ ص ۱۹۱ تصنیف، ۱۸۹۵ء)

۱۹۰۲ء میں نوے کروڑ:

”تحقیقات کی رو سے یہی صحیح تعداد مسلمانوں کی ہے یعنی نوے کروڑ مسلمانوں کی مردم شماری صحت کو پہنچی ہے۔“

(تحفہ گولڈویہ ص ۱۰۸، سن تالیف ۱۹۰۲ء روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۲۰۰)

۱۹۰۸ء میں بیس کروڑ:

”کیا یہ خدا کے ہاتھ کا کام نہیں جس نے بیس کروڑ انسانوں کو محمدی درگاہ پر سر جھکا رکھا ہے۔“

(پیغام صلح ص ۳۳، روحانی خزائن ج ۲۳ ص ۲۶۱، سن تالیف ۱۹۰۸ء)

(۲۱۷) پہلا قول: مرزا صاحب کی عمر:

۱۸۹۶ء میں ۶۲ برس:

”اگر پیش گوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھلاؤ کہ آتھم کہاں ہے اس کی عمر تو میری عمر کے برابر تھی یعنی قریب ۶۲ برس کے۔“

(اعجاز احمدی ص ۳، روحانی خزائن ج ۱۹، ص ۱۰۹)

دوسرے اقوال: ۱۸۹۸ء میں ۶۰ برس:

”میں ابتدائے عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں۔“
(اشتہار بھنور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبال، مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء ص ۳ مندرجہ مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۱۱)

۱۹۰۰ء میں ساٹھ برس:

”اگر وہ ساٹھ برس الگ کیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو ۱۲۵ء ہتک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کالعدم تھے۔“
(تحفہ گولڈویہ ۱۰۰ روحانی خزائن ج ۱۷ ص ۲۶۰)

۱۹۰۵ء میں ستر برس:

اب میری عمر ستر برس کے قریب ہے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۹۷، روحانی خزائن ج ۲۱ ص ۲۵۸)

۱۹۰۷ء میں ۶۸ برس:

”میری عمر اس وقت قریباً ۶۸ برس کی ہے۔“

(ہفتیہ الوحی حاشیہ ص ۲۰۱ روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

”قادیانی اسے اندازہ کی غلطی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک لمحہ کے لئے بھی غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتے۔“ (نور الحق آخری صفحہ)

(۲۱۸) پہلا قول: مرزا کی آمد چھٹے ہزار برس میں ہوئی:

”خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو مثیل مسیح اور نیز آدم الف ششم کر کے بھیجا۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۸۹، جلد دوم، روحانی خزائن ج ۳ ص ۳۴۳)

دوسرا قول: مرزا کی آمد ساتویں ہزار سال میں ہوئی:

”طاعون جو ملک میں پھیل رہی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک سبب سے ہے وہ یہ کہ لوگوں نے خدا کے اس موعود کو ماننے سے انکار کیا ہے جو تمام نبیوں کی پیش گوئی کے موافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہوا ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۲، روحانی خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۲)

(۲۱۹) پہلا قول: حضرت مریم کی قبر معلوم ہے:

”اور اسی گرجا (واقع بیت المقدس) میں حضرت مریم صدیقہ کی قبر ہے۔“

(اتمام الحجۃ ص ۱۹-۲۰، روحانی خزائن ج ۸ ص ۲۹۹)

دوسرا قول: حضرت مریم کی قبر نامعلوم ہے:

”حضرت مریم کی قبر زمین شام میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔“

(ہفتیہ الوحی حاشیہ ص ۱۰۱، روحانی خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۴)

(۲۲۰) پہلا قول: طاعون سے فرار منع ہے:

”چونکہ شرعاً یہ امر ممنوع ہے کہ طاعون زدہ لوگ اپنے دیہات کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں اس لئے میں اپنی جماعت کے ان تمام لوگوں کو جو طاعون

زده علاقوں میں ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقوں سے قادیان یا کسی دوسری جگہ جانے کا ہرگز قصد نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں اور اپنے مقامات سے نہ ملیں۔“ (مجموعہ اشتہارات جلد سوم حاشیہ ص ۴۶۷)

دوسرا قول: وباؤں سے فرار کا حکم ہے:

”مجھے معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں ورنہ وہ خدا تعالیٰ سے لڑائی لڑنے والے ٹھہریں گے۔“ (ریویو آف ریلیجنز جلد ۶ ص ۳۶۵، بحوالہ تعلیمات مرزا ص ۱۱۲ از مولانا ثناء اللہ امرتسری)

☆☆☆

خاتمہ

نتائج بحث و دعوت فکر

ہماری اس طویل بحث کا خلاصہ اور نتیجہ مندرجہ ذیل امور ہیں۔

(۱) آغا شورش کشمیری مرحوم کا قول ہے کہ آزاد نظم اور مرزا قادیانی کی نبوت دونوں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔

قارئین اکرام!

آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں یا قادیانیت پر لکھی گئی دیگر کتابوں کا یا براہ راست مرزائی لٹریچر ملاحظہ فرمائیں آپ کو ہزار کوشش کے باوجود کچھ پلے نہ پڑے گا کہ مرزائیت کیا ہے؟

آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے

مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا

(۲) مرزا قادیانی کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لئے اس کی شخصیت اس کے افکار و اعمال کا تجزیہ کرنے کے لئے مرزا قادیانی کے تضادات کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے یہ رسالہ اس سلسلہ میں اہل نظر کی خدمت میں بہترین مواد پیش کرتا ہے۔

(۳) تضادات کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ قادیانی آپ سے جس موضوع پر بھی بحث کریں وہ جو موقف بھی اختیار کریں آپ اس کے برعکس حوالہ قادیانی لٹریچر سے پیش کر کے اسے چند منٹوں میں ہی لاجواب کر سکتے ہیں۔ قادیانوں کو اپنے شکبہ میں کسنے کے لئے اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں ہے۔

(۴) مرزا قادیانی اور اس کے بیٹوں اور مریدوں کے تضادات پر غور و فکر کے ذریعہ قادیانی اسلام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس راستہ سے زیادہ واضح آسان اور عام فہم راستہ شاید کوئی

اور نہ ہوگا ”کیا قادیانی حضرات دنیا کی ہوس“ مرزا سے اندھی عقیدت، معاشی و معاشرتی کشش کے خول سے باہر آسکیں گے؟“

وما رید الا اصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت
والیہ انیب و ما علینا الا البلاغ المبین.

